

۱۰

۱۰

محمد مختار شاہ

۱۰

۱۰

۱۰

محمد مختار شاہ

۱۰

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ

کتاب ----- آہ
مصنف ----- محمد مختار شاہ
پروف ریڈنگ ----- سید محمد ثار گیلانی
باہتمام ----- اصغر علی بٹ
اشاعت اول ----- ستمبر 1993ء
مطبع ----- شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور
قیمت ----- 170 روپے
12 امریکی ڈالر،
12 سعودی ریال

6M06

گیلانی پبلیکیشنز لاہور

0321-8489101-0300-8889669

انگریزی کیس

صفحہ

عنوان

7

انتساب

8

چند منٹ پلیز

9

حمد

10

نعت

11

آہ کا معنی

12

آہ ہر جگہ

14

پسندیدہ آہ ناپسندیدہ آہ

17

لفظ اللہ میں بھی آہ

18

حل

18

نظر نہیں آتا

20

عجیب کام

21

وہ بھی یہ بھی

22

باڈی گارڈ

22

اثر

23

ترقی

23

صبر

24

موت ایک نعمت ہے

25

عجوبہ

26

آپ آہ کہیں یا واہ

26

پانی موت دیتا ہے

27

جینز

28

لب اسٹک

ب

29	چور
29	آہیں ہی آہیں
36	میں نے کہا اس نے کہا
37	مانگ
38	چراغ
39	دس باغ
41	بدعت
42	شوق
44	عام میں خاص
49	کیم مئی
50	کنوارے ہی کنوارے
54	خاوند اور کنوارے کا مباحثہ
56	ہندو کی مائیں
57	اگر
58	کب
59	غربت
59	انشاء اللہ
60	سب سے قیمتی چیز
60	وقت
61	علم کا پجاری
62	چپ
63	سونا
64	صفحہ 44
64	شرم
64	مزدور
66	تربیت گاہ
67	کیسے

ج

68	عقارت
69	مشکل
70	قاتل
71	ظاہر کہ باطن
72	جھوٹ مارو
72	دودھ
73	روڑی (گندگی کا ڈھیر)
75	ساس اور بہو
75	کندھا
76	شیطان کے ووٹ ہر دور میں زیادہ
77	راگ میں آگ
78	تبلیغ
79	امیر و غریب کے درمیان مکالمہ
83	سالگرہ
84	پاکستان کا سب سے بڑا دشمن؟
85	شکایت
86	دشمن دوست ہوتا ہے
88	دکاندار
91	احساس
92	نکاح
93	حیرانی ہی حیرانی
95	کرشن
96	مارکیٹ
98	یاس میں آس
99	رکاوٹ ترقی کی میٹرنگی ہے
101	موت زندگی دیتی ہے
102	امیر بڑے غریب ہوتے ہیں

103	124000
103	ناپسند میں پسند
104	ماں
104	Be-Bold
105	کبھی اچھا بھی اچھا نہیں ہوتا
106	غلطی میں درستگی ہے
106	لڑائی
107	مگر
109	دلہن
109	ماچس
110	صلہ
110	قینچی اور سوئی
111	تقلید
112	عورت
113	منزل
114	اطلاع
114	بلندی
115	حقہ
115	نام بدلا حقیقت وہی
116	Thinking
117	بوسہ
118	حرمین اور آپس
118	جہاد
119	فخر
120	کردار
122	نقل کامیابی کی ضمانت ہے

انتساب:-

ہیوسٹن کی عظیم سماجی شخصیت
جناب رضی نیازی صاحب
کے نام جن سے مظلوم کی آہیں
برداشت نہیں ہوتیں

چند منٹ پلیرز

آپ کا تو مجھے معلوم نہیں۔ البتہ میں 1968ء جنوری جمعرات سے آہوں کے شکنجے میں آ گیا تھا۔ دنیا میں آتے ہی میری ملاقات آہ سے ہی ہوئی تھی۔۔۔۔۔ میں بہت سی آہوں کیساتھ آیا جن میں سے کافی میری والدہ کے حے میں آئیں میں ان سے تنگ بھی آجاتا تھا۔ لیکن ان کو شاید مجھ سے پیار ہو گیا تھا۔ مجھ سے دور ہونا گوارا نہ تھا۔ دوسرے بچوں کی طرح نہاؤں تو ساتھ۔ سکول جاؤں تو ساتھ۔ کچھ نہ پاؤں تو ساتھ۔ کہیں کھو جاؤں تو ساتھ۔ چوٹ اور آہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور چوٹیں اکثر مجھے لگتی ہی رہتی تھیں۔ کبھی جسم پر تو کبھی روح پر۔ اب اس قدر آہوں سے پیار ہو گیا ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر ملاقات ہوتی ہے۔ اور کبھی آہ کو بھول جاؤں تو میرے دشمن یاد دلاتے ہیں۔ جب جسم کو درد ہوتا ہے تو ایمان صحت مند ہوتا ہے۔

میرا نام محمد مختار شاہ ہے اور شاہ میں بھی آہ ہے۔ مجھے ایم۔ اے بی ایڈ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ آہ! میں نے کچھ نہیں پڑھا۔ میرا شجرہ نسب کچھ یوں ہے۔
 محمد مختار شاہ بن طالب حسین شاہ بن غلام حسین شاہ بن غلام رسول شاہ بن چمن شاہ بن سید حسن شاہ بن سید شاہ محمد بن محمد حنیف شاہ بن سید تقی شاہ بن سید باغ علی شاہ بن عبد السلام شاہ بن تاج محمود شاہ بن سید حاجی شیخ احمد ولی رحمۃ اللہ علیہ۔
 بن سید محمد شاہ افغانی بن سید جعفر شاہ بن سید یحییٰ شاہ بن سید اصغر شاہ بن سید احمد شاہ۔ بن سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ۔ بن عبد الحکیم بن سید حسن ثنی بن امام حسن علیہ السلام بن حضرت علی شیر خدا۔ قصبہ ملکوال۔ قصبہ میں بھی آہ ہے۔
 اس لئے پیدائش سے اب تک لاہور میں ہی ہوں۔ آپ کیلئے چند آہیں لایا ہوں
 محمد مختار شاہ

”حمد“

تمام تعریفیں اللہ کے لئے جس کے نام میں بھی آہ ہے۔
مظلوم کی آہ کو فوراً سنتا ہے۔ جس نے انبیاء و اولیاء
کو آہوں سے شناسا کیا۔ جو شکستہ دلوں کا خریدار ہے۔
جسے آہ سحرگاہی سے پیار ہے۔ جو قرآن میں کہتا ہے۔

فلیضحکوا قليلاً وليبكو كثيراً

کم ہنسو۔ اور زیادہ آہ و زاری کرو۔

”نعت“

ﷺ والسلام سید الانبیاء پر جن کی آہ وزاری کی وجہ سے
اللہ نے جنگ بدر میں فتح دی۔ جو پیدا ہوئے تو
امت کی خاطر روئے۔ براق پر بیٹھنے لگے تو گریہ
زاری کی۔ غاروں میں امت کی خاطر آہ و فغاں کی۔۔۔۔۔
جن کی راتیں امت کے غم میں روتے روتے کھتی
تھیں۔ اس لئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان
فرماتے ہیں

واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا
رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں

آہ۔۔۔۔۔ ہر جگہ :-

آہ تو ہر جگہ ہے۔ اگر غریب آہیں بھرتا ہے تو امیر بھی یہی کام کرتا ہے۔ کمزوری آہ کا سبب ہے تو طاقتور کو بھی رو تہ دیکھا ہے۔ جہاں دکھ۔۔۔۔۔ وہاں آہ۔ اب آپ ہی بتائیں دنیا میں دکھ کہاں نہیں ہے؟ کوئی بھی جگہ مجھے آہ سے خالی نظر نہیں آئی۔ اگر آپ کے کان فضائی آواز کیج کرنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کو زیادہ آہیں ہی سنائی دیں گی۔ اگر پاکستانی روتا ہے تو ہندوستانی بھی آہیں بھرتا ہے۔ امریکہ کا فرد بھی ہمگین ہوتا ہے اور افریقہ کا باشندہ بھی درد سے آشنا ہے۔ بد صورت رو رہا ہے تو خوبصورت کی آہ بکا بھی جاری ہے۔ اگر بے اولاد رو رہا ہے۔ بچہ دے تو صاحب اولاد کو میں نے خود رو تے دیکھا ہے یا اللہ یہ اولاد واپس لے لے۔ اکثر فلاسفر اور دانیان روزگار نے انسانی زندگی میں آہ کے حے کو واہ کے حے سے کئی گنا زیادہ بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے تھرپس کے قدیم لوگوں کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تھا وہ آہ وزاری کرتے تھے اور اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو Birth Day کو ”یوم الحزن“ قرار دیتے ہیں۔

سب سے زیادہ آہیں انسان ہی بھرتا ہے۔ اور کوئی مخلوق اس سے زیادہ رنج و الم سے آشنا نہیں ہے۔

ہو مرنے کا تھا

”دنیا میں انسان سے زیادہ کوئی مغموم و محزون نہیں ہے“

خلیفہ عبدالرحمن سوم والی اندلس نے کہا

”میری زندگی میں صرف چودہ روز خوشی کے تھے“

ٹالسٹائی کہتا ہے

”میری پوری زندگی درد و غم سے پر ہے“ فارسی کا شعر ہے۔

پسندیدہ آہ۔۔۔۔۔ ناپسندیدہ آہ:-

جو کسی کے غم میں ہو۔۔۔۔۔ وہ آہ۔۔۔۔۔ پسندیدہ۔۔۔۔۔
 اور جو ذاتی مفاد کے درود کی وجہ سے ہو وہ ناپسندیدہ۔۔۔۔۔

سب سے ہے محبوب وہ آہ۔۔۔۔۔ جب کہے بندہ۔۔۔۔۔
 در نیم شبی اے اللہ۔۔۔۔۔ معاف کر گناہ۔ اسی آہ کے متعلق فارسی کا شعر ہے۔

آہ کہ زخم بیاد تو وقت سحر
 گوہر و جہاں دھند مرا نفروشم

(وہ آہ جو سحر کے وقت میں تیری یاد میں بھرتا ہوں اگر دونوں جہاں بھی مجھے دیدیں تو بھی نہ بیچوں)

اسی آہ کی اولیاء کرام تمنا کرتے رہے ہیں اور یہی کہتے تھے۔۔۔

یارب دل پاک و جان آگاہم وہ
 آہ شب و گریہ سحر گاہم وہ

(اے رب مجھے پاک دل اور پاک روح عطا فرمات کی آہ اور سحر کار و ناعطا فرما)

اس آہ کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ۔

بآہ بسوز در عالم گناہ
 بآہکے پشوید دروں سیاہ

ایک آہ سے جہاں کے گناہ دھو ڈالے اور ایک آنسو سے سیاہ اندر کو دھو ڈالے۔

ہمیشہ کی نعمتوں کے سینکڑوں جہاں محبت کی ایک آہ سے خریدے جاسکتے

ہیں۔ سحر کی نیاز مندی اور رات کی آہیں خزانوں کی چابیاں ہیں۔ ان خزانوں کی

جہاں آپ کے مقاصد موجود ہیں اُدھی رات کو اللہ کی بارگاہ میں رونا سینکڑوں بلاؤں کو

دور کرتا ہے۔۔۔۔۔

میاں محمد صاحب فرماتے ہیں۔۔۔
 بے اک آہ درودی مارن ہوئے ملک ویرانی
 کوہ قافاں دی سبزی سڑوی ندیاں رھے نہ پانی

چوتھی آہ:-

یہ آہ وہ ہے جو کسی کی محبت میں لگتی ہے اسی آہ کے متعلق ہے کہ۔۔۔
 آہ لب پہ چل گئی اشک آنکھوں سے ڈھل گئے
 یہ تیری یاد کے چراغ تھے کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے
 بقول شاعر۔۔۔

ہم رات بہت روئے بہت آہ و فغاں کی
 دل درد سے بوجھل ہو پھر نیند کہاں کی

پانچویں آہ:-

جو انسانیت کے غم میں لگتی ہے۔۔۔ یہ پیامبر کے منہ سے لگتی ہے۔
 مفکر کے منہ سے لگتی ہے۔۔۔ مدبر کے منہ سے لگتی ہے۔۔۔ وہ آہیں بھرتے ہیں۔
 آہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟!!! آخرت چھوڑ کر دنیا پہ مرتے ہیں۔ عمدہ چھوڑ کر رذیل
 لیتے ہیں!!!۔۔۔۔۔۔۔ کثیر چھوڑ کر قلیل لیتے ہیں!!! طاقتور چھوڑ کر علیل
 لیتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔!!! انکی آہیں اس وقت انتہا کو پہنچ جاتی ہیں جب لوگ سمجھانے
 کے باوجود نہ سمجھیں

☆☆☆☆

لفظ اللہ میں بھی آہ ہے

- واہ ----- میں آہ ہے
- بادشاہ ----- میں آہ ہے
- مردہ ----- میں آہ ہے
- زندہ ----- میں آہ ہے
- قبقہ ----- میں آہ ہے
- آگاہ ----- میں آہ ہے
- فاقہ ----- میں آہ ہے
- گناہ ----- میں آہ ہے
- بیوہ ----- میں آہ ہے
- نگاہ ----- میں آہ ہے
- راہ ----- میں آہ ہے
- گمراہ ----- میں آہ ہے
- دوشیزہ ----- میں آہ ہے
- دواہ ----- میں آہ ہے
- لاپرواہ ----- میں آہ ہے
- آوارہ ----- میں آہ ہے
- سربراہ ----- میں آہ ہے
- تنخواہ ----- میں آہ ہے
- جنازہ ----- میں آہ ہے
- سالگرہ ----- میں آہ ہے

حل :-

آہ انسان اتنا نہیں جانتا کہ اللہ کو مانتے میں ہی اس کی مشکلات کا حل ہے۔

Without belief in God, I think I should be crazy.

ترجمہ: میں سوچتا ہوں کہ خدا پر ایمان نہ لا کر میں پاگل ہو جاؤں گا۔

اللہ ہے۔۔۔۔۔ اس انداز سے بھی دلیل ملاحظہ ہو۔۔۔۔۔ ہر شے کی ضد ہے۔

دن کی ضد۔ رات۔۔۔۔۔ اندھیرے کی ضد۔ اجالا

خاموشی کی ضد۔ بات۔۔۔۔۔ سفید کی ضد۔ کالا

جدائی کی ضد۔ ملاقات۔۔۔۔۔ محرومی کی ضد۔ عیش

تنہائی کی ضد۔ رفاقت۔۔۔۔۔ صبر کی ضد۔ طیش

فہم کی ضد۔ حماقت۔۔۔۔۔ غویبی کی ضد۔ کیش

الفت کی ضد۔ عداوت۔۔۔۔۔ چھوٹے کی ضد۔ بڑا

ظلم کی ضد۔ عدالت۔۔۔۔۔ بلندی کی ضد۔ گھڑھا

ہر ایک کی ضد ہے تو پھر فنا کی بھی ضد ہونی چاہیے تو فنا کی ضد ہے بقا۔

بس جس پر کبھی بھی فنا نہیں آسکتی اسے ہی ہم اللہ کہتے ہیں۔

نظر نہیں آتا:-

افسوس تو یہ ہے کہ 1791ء میں پیرس میں ملحدوں کی کانفرنس کے

مقررین نے کہا۔۔۔۔۔ اللہ نہیں ہے۔ ہوتا تو نظر نہ آتا۔۔۔۔۔

غم ہے۔ نظر نہیں آتا
 دروہے نظر نہیں آتا
 ہنسی ہے۔ نظر نہیں آتی
 خوشی ہے۔ نظر نہیں آتی
 چقماق میں آگ۔ نظر نہیں آتی
 پھر بھی مانتے ہیں
 پھر بھی مانتے ہیں
 پھر بھی مانتے ہیں
 پھر بھی مانتے ہیں
 پھر بھی مانتے ہیں
 پھر بھی مانتے ہیں
 پھر بھی مانتے ہیں
 پھر بھی مانتے ہیں
 یہ تمام نظر نہیں آتے تم مانتے ہو صرف اللہ ہی پر دیکھنے کی شرط کیوں؟

☆☆☆☆ عجیب کام؟

آپ کو معلوم ہے کہ آسمان تلے سب سے عجیب کام کونسا ہو رہا ہے؟
 نہیں معلوم؟ تو ہندوستان چلے جائیے وہاں بازاروں میں لوگ بھگوان بیچ رہے ہوتے
 ہیں۔ اور لوگ ان سے بھگوان خریدتے ہیں۔۔۔۔۔ آہ انسان! بھلا بھگوان
 بھی بکتا ہے۔۔۔۔۔؟!!! سب کاموں لگاتے ہو۔۔۔۔۔ کچھ انمول بھی ہیں۔
 ممتا نہیں بکتی۔۔۔۔۔ خواب نہیں بکتے۔۔۔۔۔ پھول کی خوشبو
 نہیں بکتی۔۔۔۔۔ موسم نہیں بکتے۔۔۔۔۔ سورج نہیں بکتا۔۔۔۔۔
 فرشتے نہیں بکتے۔۔۔۔۔ انبیاء نہیں بکتے۔ بھگوان بھی نہیں بکتا۔ مگر
 انسان نے بھگوان خریدا۔ 200 روپے کا۔۔۔۔۔!! گھر لے گیا اسکی روز پوجا
 کرنے لگا۔ روز صبح ماتھا ٹیک کر جاتا۔۔۔۔۔ گھنٹی بجاتا (شاید ہندو بات کرنے
 سے پہلے اسے جگاتا ہے) ایک روز کیا ہوا وہ پوجا کر کے نکلا تو کسی نے جیب کاٹ لی۔
 جیب میں تھا 600 روپیہ۔ وہ روتا روتا اپنے بھگوان کے پاس آیا اور عرض کرتا ہے۔
 اے بھگوان! کر پا کرو۔۔۔۔۔ مجھے 600 روپیہ دے دو۔ 600 روپیہ دے دو۔

باڈی گارڈ:-

ایک صاحب محل میں آئے تو دس آدمی انکے پیچھے پیچھے۔۔۔۔۔ ہاتھوں میں کلاشنکوفیں۔۔۔۔۔ میں نے صاحب سے پوچھا آپ نے یہ آدمی ساتھ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ فرمانے لگے حفاظت کیلئے۔۔۔۔۔ میں نے عرض کیا سرکار آپ کی حفاظت یہ دس بندے کرتے ہیں تو پھر انکی حفاظت کون رتا ہے؟ وہ کہنے لگے حضرت عمرؓ نے اگر باڈی گارڈ رکھا ہوتا تو شہید نہ ہوتے۔۔۔۔۔ میں نے کہا تبھی تو باڈی گارڈ نہ رکھا کیونکہ وہ شہادت جیسی نعمت عظمیٰ سے محروم نہیں ہونا چاہتے تھے۔۔۔۔۔ حضرت عمرؓ نے ایک روز فرمایا تھا عوام کا یہ کام نہیں وہ میری حفاظت کریں یہ تو میرا کام ہے کہ میں انکی حفاظت کروں بفرض حال آپ کی بات مان لی جائے کہ باڈی گارڈ ہونے تو عمرؓ سچ جاتے تو ایک بات بتائیے امریکہ کا صدر کینڈی گولی کا شکار کیوں ہو گیا تھا۔ حالانکہ کمانڈو ساتھ تھے۔ محافظ ساتھ تھے۔ خفیہ ایجنسی کی آنکھیں ساتھ تھیں۔ پھر وہ دشمن کی گولی کا شکار کیوں ہوا؟ وہ چپ کر گئے۔ میں نے عرض کی حضور۔۔۔۔۔ صرف ”ٹہکا“ ہے۔

اگر موت لوہے سے ڈرتی ہوتی تو کوئی لوہا نہ مرتا۔۔۔۔۔ موت برحق ہے زندگی میں شک ہے۔

☆☆☆☆

اثر:-

ایک مریض نے باقاعدہ دوائی استعمال کی وہ پھر بھی مر گیا۔۔۔۔۔ کیا آپ دواؤں کے اثر سے انکار کریں گے؟ یقیناً نہیں کریں گے۔ دوائی نے اثر نہ کیا کوئی وجہ تھی اسطرح دعا بھی بعض اوقات اثر نہیں کرتی کچھ وجہ ہے تلاش کرو۔

”اگر موت ہمیشہ کے لئے شعور اور احساس کو ختم کر دیتی ہے تو یہ ایک نعمت بے بہا ہے“ اللہ تعالیٰ نے بھی موت کو نعمتوں میں شمار کیا ہے۔

کل من علیہا فان۔ ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام
فباى آلاء ربکما تکذبان

ہر شے فنا ہوگی صرف باقی رہے گا تیرے رب جلال واکرام والے کا چہرہ۔ کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔۔۔۔۔
اجل کو دیکھ کر زیر فلک قرار آیا۔ مصائب کی بالآخر اک انتہا تو ہے۔
چارلس فرومین (CHARLES FROHMAN) کہتا ہے۔

Why fear death? It is the most beautiful
adventure in life

ترجمہ:- ”موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ زندگی میں بہت خوبصورت ایڈونچر ہے“

جب کوئی مرجائے تو یوں کہا کرو

God,s finger touched him, and he slept.

☆☆☆☆

عجوبہ:-

احرام مصریہ دنیا کے عجائبات میں سے ایک ہے۔ اسکی تعمیر میں ایک لاکھ غلاموں کی آہیں شامل ہیں۔ اس میں تقریباً 23 لاکھ پتھر جڑے ہوئے ہیں۔ ایک پتھر کا اوسط وزن اڑھائی ٹن ہے۔ ان میں ایسے ایسے پتھر بھی ہیں جن کا وزن سولہ سولہ ٹن بھی ہے آج اسکی اونچائی ساڑھے چار ہزار برس بعد 137 میٹر ہے یہ تیرہ ایکڑ زمین میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک لاکھ غلام بیس سال تک اس کی تعمیر میں لگے رہے۔ میں تو سوچتا ہوں یہ سولہ سولہ ٹن کا اڑھائی اڑھائی ٹن کا ایک ایک پتھر یہ غلام دور دراز سے کس طرح لاتے رہے جبکہ ٹرانسپورٹ کا موجودہ نظام تھا ہی نہیں!!! یہ ایک لاکھ غلاموں کی باہوں اور آہوں کا ثمر ہے۔

آپ آہ کہیں یا واہ:-

یہ آپ کی مرضی ہے پہلے بات سن لیجئے۔۔۔۔۔ ”آزادی کا مجسمہ نیویارک میں کھڑا ہے۔ ریڈ انڈین یہ امریکہ کے رہائشی تھے غلام بنائے گئے۔۔۔۔۔ اور باہر سے آنے والے انگریز آزاد ہو گئے۔۔۔۔۔ (ال لاء) اور حیرانی کی یہ بات ہے کہ یہ مجسمہ امریکیوں نے خود نہیں بنایا۔ فرانس والوں نے پیرس میں بنوایا اور پھر تحفے کے طور پر امریکہ کو دیا۔ امریکی باہر سے آئے اور انکی آزادی کا مجسمہ بھی باہر سے آیا۔

آہ ریڈ انڈین۔۔۔۔۔ واہ امریکیو!

پانی موت دیتا ہے:-

یہ تو آپ نے سنا ہے کہ زندگی کا دار و مدار پانی پہ ہے۔ لیکن میں نے کئی بار زندگی کے اس منبع کو موت بانٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ پودے کو برٹھاتا بھی ہے۔ مٹاتا بھی ہے۔۔۔۔۔ انسان کو بچاتا بھی پانی ہے اور ”سلا تا“ بھی ہے۔۔۔۔۔ یہ جسم کے اندر جائے تو سنوارتا ہے۔۔۔۔۔ جسم اسکے اندر جائے تو بگاڑتا ہے۔۔۔۔۔ پانی کی کیا بات ہے!!! آہ بھی ہے واہ بھی ہے۔۔۔۔۔ جب گرمی میں صحرا میں مل جائے تو واہ ہے۔۔۔۔۔ جب دریا شہر میں آجائے تو آہ ہے۔۔۔۔۔ اگر مکان پانی کے ساتھ بنتا ہے تو خراب بھی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے کپاس اگتی اسی کی وجہ سے ہے لیکن روئی پہ پڑ جائے تو خراب ہو جاتی ہے!!! گنا اکتا پانی کے ساتھ ہے۔ لیکن گڑ پہ پڑ جائے تو مٹا دیتا ہے۔ کشتی کو منزل پہ پہنچاتا بھی یہی ہے اور ڈھوتا بھی یہی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ نمک سے کھا پانی زندگی دیتا ہے۔ کہنے لگا دیتا ہوگا پر میں نہیں مانتا میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگا جب بھی میرے قریب آیا ہے

کھور“ کے رکھ دیا۔۔۔۔۔ اور اسی قسم کی بات چینی، کاربن، رنگ، چونا وغیرہ نے بھی کی۔۔۔۔۔ آہ کیا ہیں وہ اشیاء جو باعث حیات بھی ہیں اور وفات بھی۔ ویسے ایک بات ہے آپ دریا کے پاس جاتے ہیں سمندر کے پاس جاتے ہیں جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو بھاگ کیوں جاتے ہو۔۔۔؟

جمیز:-

”جمیز ایک لعنت ہے“۔۔۔۔۔ ”یہی جملہ آپ کو ہر آدمی کے منہ سے سنائی دے گا“ جمیز ایک لعنت ہے۔۔۔۔۔ تعجب ہے اس لعنت کو ہر ایک لاشعوری طور پر پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی ”یہ لعنت“ ساتھ لیکر نہ آئے۔ اس کے چولے میں آگ لگ جاتی ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔۔۔۔۔ جو لڑکی ”یہ لعنت“ جتنی زیادہ لائے گی اسکی اتنی ہی عزت ہوگی!!!!

میرے نزدیک لڑکی کو رخصت کرتے ہوئے مندرجہ ذیل جمیز ماں رخصتی کے وقت دے اپنی بیٹی سے کہیے۔

- 1- قناعت کرنا یعنی تھوڑے سے راضی رہنا تمہارا رشتہ طویل ہوگا۔
- 2- اسکی بات غور سے سنا اور اس کا حکم بجالانا تمہاری زندگی پر مسرت ہوگی۔
- 3- جہاں جہاں خاوند کی نگاہ پڑتی ہے ان جگہوں کا خاص خیال رکھنا تاکہ اس کی نگاہ تیرے جسم اور لباس کے ایسے حصے پر نہ پڑے جو بدنما اور غلیظ ہو۔
- 4- اور جہاں اسکی ناک سونگھ سکتی ہو اسکے بارے میں محتطاط رہنا تجھ سے

اسے خوشبو آئے۔ بدبو نہ آئے۔

5- سرمہ حسن کی افزائش کا بہترین ذریعہ ہے اور پالی گمشدہ خوشبو سے زیادہ

پاکیزہ ہے (یعنی خوشبو نہ ملے جسم دھو کر بھی صاف ہو سکتا ہے)

- 6- اسکے کھانے کے اوقات کا خاص خیال رکھنا کیونکہ بھوک کی حرارت شعلہ بن جایا کرتی ہے۔ جب وہ سونے تو اسکے آرام میں مغل نہ ہونا۔ کیونکہ نیند میں خلل اندازی بغض کا باعث بنتی ہے۔ اسکے گھر اور مال کی حفاظت کرنا، اسکی ذات کی اسکے نوکروں کی اور اسکے عیال کی عزت کرنا
- 7- اسکے راز کو افشامت کرنا اگر تو اسکے راز کو فاش کر دے گی تو اسکے عذر سے محفوظ نہیں رہ سکے گی۔
- 8- جب وہ عمگین ہو تو خوشی کے اظہار سے اجتناب کرنا اور جب وہ خوش ہو اسکے سامنے منہ بسور کر مت بیٹھنا۔ پہلی نصلت آداب زوجیت کی ادائیگی میں کوتاہی اور دوسری نصلت دل کو مکر کر دینے والی ہے۔
- 9- حتی المقدور اسکی عزت کرنا وہ اسی قدر تمہارا احترام کرے گا جس قدر تم اسکی ہم نوار ہوگی اس قدر وہ تمہیں اپنا رفیق حیات بنائے رکھے گا۔
- 10- اور یہ آخری بات ہے غور سے سن لو۔ تم جس چیز کو پسند کرتی ہو اسے نہیں پاسکتی جب تک اسکی رضا کو اپنی رضا پر اسکی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح نہ دو۔

لڑکی ان نصائح کو پلے باندھ کر لے گئی۔ سارا سامان پرانا ہو گیا مگر لڑکی نئی کی نئی رہی۔ اسکی عزت بڑھتی رہی اور وہ گھر TASTE OF PARADISE بن گیا۔

☆☆☆☆☆

لب اسٹک :-

لب اسٹک کا آغاز فرامین مصر کے عہد میں ہوا۔ عورتیں اپنے ہونٹوں پہ لگاتی تھیں تاکہ شیطانی ارواح اندر داخل نہ ہو جائیں ہو سکتا ہے اس دور میں لب اسٹک بدبودار ہو۔۔۔۔۔ لیکن آجکل تو لب اسٹک شیطان کو بھگانے کے

تو جانور کے پاس بھی ہیں۔۔۔۔۔ کچھ سنائی دیا؟ نہیں؟ میرے ساتھ چلو۔ ٹھہرو یہ بچہ ہے چھپ کر اس کی آہ سنو۔

☆☆☆☆

بچہ کی آہ:-

آہ! یہ ماسٹر بیمار کیوں نہیں ہوتا؟ یا اللہ! ماسٹر جی ریاضی و انگریز پڑھو والے ماسٹر جی بیمار ہو جائیں آج انکو کوئی ضروری کام پڑ جائے مگر اسکی آہیں سنی نہیں جاتیں اور ماسٹر صاحب آجاتے ہیں اور اسے خوب مار پڑتی ہے۔ پھر یہ کلاس میں روتا ہے۔۔۔۔۔ وہ مختلف غموں کا اظہار کرتا ہے۔ چھٹی کیوں نہیں ہوتی؟۔۔۔۔۔ کاش سبق نہ سنا جائے صرف پڑھایا جائے جس طرح کالجوں میں ہوتا ہے اتوار کا دن جلدی کیوں ختم ہو جاتا ہے؟۔۔۔۔۔ باقی دن لمبے کیوں ہوتے ہیں؟۔۔۔۔۔ چھٹیاں ہوتی ہیں سیر کرنے کے لئے اور ماسٹر ساری ساری کتاب کا سبق لکھنے اور یاد کرنے کو دے دیتے ہیں اگر اتنا کام دینا تھا تو چھٹیاں کیوں دیں؟ اس کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ آہ بھرتا ہے اور کام بھی کرتا ہے۔

☆☆☆☆

ماسٹر کی آہ:-

شاگرد ہماری عزت کیوں نہیں کرتے؟ آہ۔۔۔۔۔ تنخواہ۔۔۔۔۔ خرچ نہیں چلتا۔۔۔۔۔ کنبہ نہیں پلتا۔۔۔۔۔ ہائے بڑھا پا۔۔۔۔۔ یا اللہ! کچھ ٹیوشنزدے دے۔۔۔۔۔ وہ بیچارہ لوگوں کے گھر گھر جا کر بچوں کو پڑھاتا ہے اور رات دس بجے گھر آتا ہے ایک سرو آہ کھینچتا ہے اور صوفے پر گرتے ہوئے ایک ہی جملہ۔۔۔۔۔ بیوی کھانا لاؤ۔

☆☆☆☆

مولوی کی آہ:-

ایک مولوی صاحب اپنا رونا رو رہے تھے کہ لوگ ہم پر اعتراضات بہت کرتے ہیں۔ جسے کوئی نہیں پوچھتا وہ ہم سے آکر سب کچھ پوچھتا ہے!!! ہماری تنخواہ۔۔۔۔۔ بس آہ۔۔۔۔۔ ایک خطیب صاحب فرما رہے تھے کہ لوگوں کے اندر اسلام کی محبت ختم ہو گئی ہے پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہنے لگے ہم جلسہ فرماتے ہیں تو لوگ آتے ہی نہیں۔۔۔۔۔ جمعہ کے روز اس وقت آتے ہیں جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک مقتدی صاحب فرما رہے تھے یہ تنخواہ کارونا کیوں روتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین۔ یہی تو ہمیں پڑھ کر سناتے ہیں خود اللہ پہ توکل کریں پیسوں کی طرف دھیان کیوں دیتے ہیں۔ ہم مولویوں کو سفید چادر کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔۔۔۔۔ جو عیب ہمارے اندر ہیں انکے اندر نہیں ہونے چاہیں۔۔۔۔۔ ہم نے ان کو بلند مقام دیا ہے۔۔۔۔۔ یہ پستی والے کام کرتے ہیں تو ہم اعتراضات کرتے ہیں۔ ہمیں اسلام سے شدید محبت ہے۔ لیکن اسلام انکے اپنے پاس کوئی نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ انکے جلسوں میں دوسرے مسلک کے اعتراضات و جوابات ہوتے ہیں اسلام کے متعلق کچھ نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ اور جمعہ کے روز کیا سننے جائیں۔

شعر؟۔۔۔۔۔ حکایات؟ اور وہ بھی بار بار ایک ہی؟

غوث پاک کی تقریر ہوگی تو چوروں والا واقعہ سنا دیں گے۔۔۔۔۔
جنگ بدر ہوگی تو بچوں والا واقعہ سنائیں گے۔۔۔۔۔ انکی تقریریں تو ہمیں زبانی یاد ہیں آدھی تنخواہ دیکر ہم سے سن لو۔۔۔۔۔ میں جان چھڑا کر اٹھ گیا۔۔۔۔۔

مردے کے پاس چھوڑ گیا وہ تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا۔۔۔ پھر کیا ہوا؟۔۔۔ کیا ہونا تھا۔۔۔۔۔ آہ! اور کیا؟۔

☆☆☆☆

گلدستہ :-

دوسرے پھول کی روح آہ بھرتے ہوئے یولی۔ میں ان پھولوں میں جنہیں ایک آدمی بازار لے گیا۔ میرے ساتھ اور بھی پھول تھے جو رنگ و نسل کے اعتبار سے مختلف تھے۔ ہم سب کو ایک لفافے میں بند کر دیا۔ ہمارا دم تک گھٹنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اس نے ہمیں خریدا اور بڑے آرام سے ہمیں رکھا اور لے جا کر اپنی محبوبہ کو پیش کیا۔ اس نے اپنا خوبصورت سا چہرہ ہمارے قریب کیا ایک لمحے کے لئے تو ہم اپنا دکھ بھی پھول گئے۔ لیکن خوشی کب تک؟۔۔۔۔۔ اس نے ہمیں ایک کونے میں رکھ دیا۔۔۔۔۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہماری ساری روح (خوشبو) نکل گئی۔۔۔۔۔


☆☆☆☆

مسہری :-

ایک پھول کی آہوں میں پہلوں کی نسبت زیادہ درد تھا میں نے پوچھا کیا تم پر زیادہ ظلم ہوا ہے؟ کہنے لگا کچھ نہ پوچھو ایک روز یوں ہوا کہ ایک آدمی کار سے نیچے اترا۔ سیدھا دکان پہ۔۔۔۔۔ اس کی دوسرے دن شادی تھی اس نے مسہری کا آرڈر دیا۔۔۔۔۔ کچھ نہ پوچھو پھر کیا ہوا؟۔۔۔۔۔ بڑے پھول کٹے کئی بندھے گئے اس دن اجتماعی ظلم ہوا۔۔۔۔۔ بہر حال دوسری شام مسہری تیار ہو گئی کچھ پھول بیڈ کے ارد گرد لٹکا دیئے گئے اور کچھ بیڈ پر گرا دیئے گئے۔ دلہن کو اندر بٹھایا گیا وہ کتنی خوش تھی اور ہماری ”جان“ نکل رہی تھی وہ سر جھکائے بیٹھی رہی ہماری طرف دھیان نہ دیا۔۔۔۔۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ نہ

میں نے کہا قرآن ایک ہے
میں نے کہا زمین ایک ہے
میں نے کہا پیداسب ایک جگہ سے ہوئے
میں نے کہا سب کا دل ایک ہوتا ہے
میں نے کہا سب کے منہ میں زبان ایک ہے
اس نے کہا ترجمہ تو ایک نہیں
اس نے کہا مکان تو ایک نہیں
اس نے کہا ماں تو ایک نہیں
اس نے کہا ارمان تو ایک نہیں
اس نے کہا Language
تو ایک نہیں

میں نے کہا سب کا نبی ایک ہے
میں نے کہا سب کی پیشانی ایک ہے
میں نے کہا سب کا خالق ایک ہے
میں نے کہا آہ لوگ بھی ایک ہوتے
اس نے کہا فرقہ تو ایک نہیں
اس نے کہا مسجود تو ایک نہیں
اس نے کہا نصیب تو ایک نہیں
اس نے کہا وہ تو تب تھا
جب نیک ہوتے



مانگ

اے انسان مانگ۔۔۔۔۔ اللہ سے مانگ۔۔۔۔۔ وہ خود کہتا
ہے "ادعونی" مجھ سے مانگو۔۔۔۔۔ آہ انسان اس سے نہیں مانگتا جو مالک
ہے۔ خالق ہے۔۔۔۔۔ غفار ہے۔۔۔۔۔ مختار ہے۔۔۔۔۔
منگتوں سے مانگتا ہے!!!۔ مانگ۔ مانگے بنا عطا نہیں ہوتی۔۔۔۔۔ ماں کے
پستانوں میں دودھ وافر مقدار میں ہوتا ہے۔۔۔۔۔ مگر ملتا اسی وقت ہے جب بچہ
مانگتا ہے۔۔۔۔۔ اگر مانگے بنا ہی مل جاتا تو پھر دینے والے کا پتا کیسے چلتا۔۔۔۔۔
انسان اپنے رب سے مانگ۔۔۔۔۔ نہ وہ سوتا ہے۔۔۔۔۔ نہ وہ غائب ہوتا
ہے۔۔۔۔۔ اس کا دروازہ کسی لمحے بند نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ بلکہ اس کا
دروازہ کھلتا ہی اس وقت ہے جب سب لوگ دروازے بند کر کے سو جاتے ہیں۔

انبیاء و اولیاء کا کام ہے۔

میں نے پوچھا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمانے لگے عمگین کو ہی عمگسار ملتا ہے۔

آہیں بھرنے والے کو مدینے سے آواز آتی ہے غمزوہ پریشان نہ ہوں میں تمہارا
عمگسار ہوں۔

”عام میں خاص“

عام میں خاص ہوتے ہیں خاص میں عام نہیں ہوتے
اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی حقیر نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ جنہیں لوگ حقیر اور چھوٹا سمجھتے
ہیں اللہ رب العزت نے انہیں ہی بڑا کیا اور اپنی نوازشات سے نوازا۔۔۔۔۔ وہ
عام لوگوں کو بھی بہت پسند کرتا ہے۔۔۔۔۔ تبھی تو زیادہ بنائے ہیں۔

مثالیں ملاحظہ ہوں

1:- آئزک نیوٹن:-

ان کا نام D.MICHEL ڈاکٹر مائیکل نے اپنی کتاب The
Hundred میں دوسرے نمبر پہ لکھا ہے۔ یہ دنیا کا عظیم برطانوی سائنسدان ایک
غریب کسان کا بیٹا تھا۔ پیدائش سے دو ماہ قبل ان کا باپ دنیا سے چل بسا۔ نتیجتاً
انہیں بچپن میں ہی کھیتوں میں کام کرنا پڑا۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے اس عام آدمی
کو دنیا کا خاص ترین آدمی بنا دیا۔۔۔۔۔ انہوں نے خوب محنت کی کیمرج
یونیورسٹی میں ریاضی کے پروفیسر رہے۔۔۔۔۔ رائل سوسائٹی کے رکن بنے۔۔۔۔۔
پھر رائل سوسائٹی کے صدر بھی منتخب ہوئے۔۔۔۔۔

2:- نظام الملک طوسی:-

الپ ارسلان کا وزیر۔۔۔۔۔ سیاہ و سفید کا مالک۔۔۔۔۔ جسکو
مندرجہ ذیل خطابات سے نوازا گیا۔۔۔۔۔ اتابک۔۔۔۔۔ عماد الدولہ، وزیر
کبیر، خواجہ بزرگ، تاج الحضرتین قوام الدین امام غزالی کے استاد امام الحرمین
الجبونی اسے سید النوری موید الدین اور مستخدم للسیف واللقلم کہتے تھے۔
یہ علاقہ طوس کے ایک کاشتکار کے گھر پیدا ہوا ابتدائی ایام میں ہی والدہ

فوت ہو گئی۔ اور باپ مفلسی کا قریبی دوست تھا۔۔۔۔۔ مگر بچے نے خود محنت کی قرآن حفظ کیا۔ عربی زبان سیکھی اور اللہ نے ایک عام سے آدمی کو خاص بنا دیا۔ درس نظامی اسی کی وجہ سے ہے اور بغداد میں مدرسہ نظامیہ اسی نے بنایا تھا۔
سر جیمس سمپس :-

یہ اسکاٹ لینڈ کا ڈاکٹر ہے اس نے کلوروفارم کے اثرات سے لوگوں کو متعارف کروایا۔ دنیا اس کے احسان کو تسلیم کرتی ہے۔ اس دریافت کی وجہ سے اپریشن کرنے میں بہت آسانی ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ ایک غریب نائیبانی کا بیٹا تھا۔۔۔۔۔ یہ سات بھائی تھے گھر کا خرچہ بہت مشکل سے چلتا تھا۔۔۔۔۔
 سر جیمس کی محنت رنگ لائی تمام حالات موافق ہوتے گئے اور ایک روز یہ معمولی لڑکا اس دور کی اعلیٰ ڈگری M-D لیکر غیر معمولی انسان بن گیا۔
4 :- جیک لندن :-

شہرہ آفاق ناول ”جنگل کی پکار“ کا مصنف امریکہ کا مشہور ترین ادیب ابتداء میں پیٹ کی بھوک مٹانے کے لئے در بدر روٹی مانگتا تھا۔۔۔۔۔ پبلشر اسکی کہانیاں پھینک دیتے تھے۔۔۔۔۔ وہ اکثر بھوکا رہتا تھا۔۔۔۔۔ غم کھاتا تھا اشک پیتا تھا۔ پارکوں، فٹ پاتھز پہ سوتا۔۔۔۔۔ آہیں بھرتا تھا۔۔۔۔۔ لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کرتا تھا۔۔۔۔۔ کئی دفعہ حوالات کی بھی ہوا کھانی پڑی۔۔۔۔۔ لیکن اللہ نے اسے بلند کیا۔۔۔۔۔ عام سے خاص کیا اور ایک دن وہ بھی آیا کہ اسکی سالانہ آمدنی امریکہ کے صدر کی سالانہ آمدنی سے دو گنی تھی۔
اینڈریو کارینسکی :-

امریکہ میں ”لوہے کا بادشاہ“ کے نام سے مشہور ہے۔۔۔۔۔ انتہائی غریب تھا۔۔۔۔۔ اس کا باپ کھڈی کا کام کرتا تھا۔ وہ بیچارہ میزپوش

بناتا اور لوگوں کے گھروں میں جا کر بیچتا تھا۔۔۔۔۔ اسکی والدہ لوگوں کے کپڑے دھوتی تھی۔۔۔۔۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ بیچارے کے پاس صرف ایک قمیض تھا جب رات کو بستر میں گھستا تو اسکی ماں وہ قمیض دھو دیتی۔ صبح وہ پہن لیتا۔ آپیں ہی سنیں اور آپیں ہی نکلیں۔ آپیں ہی اثر لائیں ہمت نہ ہاری قرضہ لیا اور ریلوے کو لوہے کا سامان فروخت کرنا شروع کیا۔ اللہ نے اس عام سے آدمی کو امریکہ کا خاص آدمی بنا دیا۔ اتنا امیر ہو گیا کہ ساڑھے سات کروڑ پونڈ غریبوں کی امداد کیلئے دیئے۔۔۔۔۔

البرٹ آئن سٹائن :-

یہ ایک معمولی باپ کا بچہ تھا۔۔۔۔۔ اسکول پڑھنے گیا تو ماسٹرز نے نکال دیا۔ کیونکہ یہ اتنا نالائق تھا کہ دوسرے بچوں پر اثر پڑنے کا خطرہ تھا۔ زیورک کے پولی ٹیکنیک میں اسکو پہلی بار داخلہ نہ مل سکا کیونکہ آزمائشی امتحان میں اسکے نمبر کم تھے چنانچہ مزید تیاری کر کے اگلے سال داخلہ لیا۔ پھر بھی وہ خاص محنتی نہ تھا بلکہ ایک استاد کہتا تھا، Albert was a lazy dog۔ اس عام سے بچے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا خاص ترین سائنسدان بنایا۔

انریکو کاروسو :-

اطلی کا مشہور گویا۔۔۔۔۔ اسکی ابتدائی زندگی اتنی پر آشوب تھی کہ وہ جب شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا تو یاد کر کر کے رو دیا کرتا تھا اسکی والدہ نے اسے انتہائی مشکلات میں پالا۔ 21 برس تک یہ ایک معمولی کارخانے میں کام کرتا رہا۔ سڑکوں پر آوارہ پھرا کرتا تھا۔۔۔۔۔ اور کبھی کبھار لوگوں کے گھروں کے سامنے کھڑا ہو کر گاتا۔۔۔۔۔ ابتداء میں اسکی آواز تان کھینچتے ہوئے پھٹ جاتی تھی۔ جب ایک روز تھیٹر میں گانے آیا تو لوگوں نے گندے انڈے پھینکے۔ اس واقعہ

نے اسے آہوں سے آشنا کیا مگر یہی عام سا آدمی ایک روز کروڑ پتی بن گیا۔ اسے
صرف گراموفون ریکارڈز سے چار لاکھ پونڈ آمدنی ہوئی۔
ہارڈ ٹھرسٹن :-

شکاگو کا مشہور شعبہ باز۔۔۔۔۔ اسے بچپن میں اس کا باپ بہت مارتا
تھا۔ اسکی کھال ادھر جاتی تھی۔ ایک روز باپ کی مار سے تنگ آکر وہ گھر سے بھاگ
گیا۔ انسانوں کی بھیڑ میں وہ تنہا پھر تارہا۔۔۔۔۔ پیٹ بھرتے بھرتے خالی ہو
جاتا اسے بھرنے کی اسکے اندر طاقت نہ ہوتی تھی۔ بیچارہ دوسروں سے بھیک مانگتا۔۔
آہوں نے گھیر لیا۔ بار بار آہ سے ملاقات ہوتی۔۔۔۔۔ کبھی سفر کرتے
ہوئے جب ٹکٹ نہ ہوتا اور اسے بس سے دھکا دے دیا جاتا۔۔۔۔۔ رات کو
سونے لگتا تو کسی کھنڈر میں پناہ ملتی۔ اور سردی لگتی تو اٹھ جاتا اور آہیں بھرتا اسکی
آہوں سے کھنڈر چیخ اٹھتا۔ پولیس اسے آوارہ گردی کے جرم میں حوالات لے جاتی
وہ رو دھو کر وقت کو پاس کرتا۔

ایک روز اس نے پادری کا وعظ سنا بہت متاثر ہوا اور پادری بننے کی ٹھانی
اور نارٹھ فیلڈ کے موڈن بائبل سکول میں داخلہ لے لیا۔ یہ بیچارہ محنت مزدوری
کر کے فیس ادا کرتا صرف چھ ماہ تک پڑھا۔۔۔۔۔ ایک روز وہ اس تھیٹر میں چلا گیا
جہاں الیگزینڈر ہرمن اپنے کرتب دکھا رہا تھا۔ یہ بہت محظوظ ہوا اور شعبہ باز بننے
کا ارادہ کیا چنانچہ خوب محنت کی اور جادو گروں کا بادشاہ کہلوا یا۔ شہرت بھی ملی
دولت بھی ملی۔ اللہ نے ایک عام کو خاص کر دیا۔
چارلی چپلن :-

فلمی دنیا کا مشہور آدمی ابتداء میں انتہائی غریب آدمی تھا۔ پھر محنت کی
52 سال تک فلمی دنیا پہ چھایا رہا۔ بے شمار دولت کمائی۔ جب مرا تو دس ملین پونڈ

ماں نہ باپ۔۔۔۔۔ لیکن اللہ نے پیامبری عطا کی۔ جنہیں قوم۔ معاشرہ ”عام“ سمجھتا تھا ”خاص“ بنایا حضور ﷺ کو اثنائشک کرتے تھے آپ آہیں بھرا کرتے تھے۔ یہ چند مثالیں ہیں ورنہ تاریخ بھری پڑی ہے۔ اے نوجوانو! اٹھو محنت کرو۔ اور دنیا پہ چھا جاؤ۔ چوٹی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔

☆☆☆☆

یکم مئی:-

اس روز مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر یوں ہے:-
 آج مئی 1998ء سے ایک سو بارہ سال قبل ”فیڈریشن آف آرگنائزڈ ٹریڈس اینڈ لیبر یونینس آف یونائیٹڈ اسٹیٹس اینڈ کناڈا“ کے لیڈروں نے مطالبہ کیا کہ مزدوروں سے صرف آٹھ گھنٹہ کام لیا جائے۔ یکم مئی 1886ء کو امریکہ میں ہڑتال ہوئی۔ ہڑتال کامیاب رہی۔ 3 مئی 1886ء کو شکاگو میں جلسہ ہوا۔ ”آگسٹ سپائز“ مزدور رہنما نے تقریر کی۔ دوران تقریر پولیس نے گولی چلا دی سینکڑوں مزدور ہلاک ہو گئے 4 مئی کو احتجاجی جلسہ رکھا گیا۔ جلسہ گاہ میں کسی نے بم رکھ دیا ایک سارجنٹ مارا گیا۔ انکے خلاف پرحہ ہو گیا پیرسن، سپائز، فشر اور انجیل کو پھانسی دے دی گئی انہی کی یاد میں 1890ء کو امریکہ کے اندر یکم مئی کو تعطیل ہوئی اور ساری دنیا نے پیروی کی۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم انکو لیڈر اور شہدائے شکاگو کہتے ہیں!!! اور یوم مئی مناتے ہیں!!! کیا امریکہ یوم بدر مناتا ہے۔۔۔؟
 یہودی اور عیسائی ہمارا کون سا دن مناتے ہیں؟ کیا تمہارے پاس ایسا کوئی دن ہے؟
 ہے۔۔۔۔۔ مسلمانوں! ہمارے پاس ایسا دن ہے جسکی مثال رونے زمین پہ نہیں ہے۔۔۔۔۔ وہ ہے ”یوم خندق“ جس دن مزدوروں کے لیڈر نے خود ہاتھ میں اوزار پکڑ کر زمین کھودی۔۔۔۔۔ مزدوروں کے ساتھ بھوکے رہے۔ انہوں نے بھوک کی وجہ سے اک پتھر باندھا تو مزدوروں کے لیڈر کے پیٹ پر

بھوک کی وجہ سے دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ انگریزوں نے دوسری قوموں کے مزدوروں پہ ظلم و ستم کئے۔ انکے کھلیان جلائے۔ ہمارے سرکار نے اعلان فرمایا تھا۔

الکاسب حبیب اللہ ”مزدور اللہ کا دوست ہے“

اور فرمایا۔ ”پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی اجرت دے دو“

کنوارے ہی کنوارے :- ☆☆☆☆☆☆
 جنہیں طور پر کسز اور پپسی سے تعلق ہے وہ کسی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔
 کنوارے ہی کنوارے :- جنہیں طور پر کسز اور پپسی سے تعلق ہے وہ کسی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔

بے اور کچھ لوگ اپنے مقصد میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ شادی کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ مندرجہ ذیل عظیم کنواروں کا تذکرہ ملاحظہ ہو جو لوگ مقصد میں اس قدر کھو گئے شادی نہ کی اور مر گئے۔۔۔۔۔

1۔ ماور ملت محترمہ فاطمہ جناح بھائی کی خدمت میں لگی رہیں شادی نہیں کی۔

2۔ اردو ادب کا معتبر نام عزیز حامد مدنی بھائی کے بچے پائتار یا خود شادی نہ کی۔

3۔ ہندوستان کا عظیم شاعر ساحر لدھیانوی شاعری میں اس قدر محو ہوا کہ محبوبہ نہ لاسکا۔

4۔ جین آسٹن طربیہ معاشرتی ناول نگار تمام عمر کنواری ہی رہی۔

5۔ ہندوستان کا مشہور مسلمان اداکار سنجو کمار۔۔۔۔۔ تنہا ہی رہا۔

6۔ امریکہ کا مشہور اسٹریٹری جیمس تجرد کی زندگی گزار کے مر گیا۔

7۔ مشہور شاعر اطہر نفیس صاحب نے نصف بہتر کے بغیر ہی گزار دی۔

8۔ پولینڈ کا مشہور پیانو نواز فریڈرک شوپن ساری زندگی پیانو کی تکنیک کو

ترقی دینے میں لگا رہا۔ پیانو ہی رکھا ہوی نہیں۔

- 9- بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب 92 سال تک زندہ رہے بغیر شادی کے۔
- 10- آزاد خیالی کی علامت، Candid کارا سٹروالٹیر تمام عمر مجرد رہا۔
- 11- امریکہ کی مشہور شاعرہ ایمیلی ڈکنسن نے پوری زندگی عزت نشینی میں گزار دی۔

12- اٹل بہاری واجپائی بھارت کے مشہور سیاسی لیڈر 1926ء کو پیدا ہوئے

لیکن شادی نہیں کی۔

- 13- بابائے انٹرنیٹ ایڈم سمٹھ جسکی کتاب کو معاشیات کی انجیل تصور کیا جاتا ہے یہ معاشیات کو سدھارتا رہا اکیلے ہی۔۔۔۔۔ شادی نہیں کی۔
- 14- تحریک ختم نبوت کا مجاہد مولانا عبدالستار خان نیازی 1915ء کو پیدا ہوئے بیاہ نہیں کیا۔ نظام مصطفیٰ ﷺ کے نفاذ میں کوشاں رہے۔
- 15- ملکہ الزبتھ اول جسکے دور کو انگلستان کا عہد زریں کہا جاتا ہے یہ ملک سوار نے میں لگی رہی بیاہ نہیں کیا۔

16- مشرق کا پکاسو، مشہور مصور، خطاط و شاعر صادقین اپنے فن میں مصروف رہا۔

شادی کا ہوش ہی نہ رہا۔

17- پہلی خاتون ڈاکٹر الزبتھ بلیک ویل انہوں نے 1857ء میں

The NEW YORK Infirmary For Women And Children.

کے نام سے ہسپتال کھولا۔ اسکا تمام عملہ Female تھا۔۔۔۔۔ یہ

ڈاکٹر بھی تھی سیاح بھی مصنف بھی تمام عمر شادی نہیں کی۔

18- پہلوانی کے 361 داؤاے بجا کرنے والا استاد زمان نور الدین تمام عمر داؤ پیچ

تلاش کرنے میں لگا رہا شادی نہیں کی۔

- 19- جرمن کا مشہور فنونیت فلاسفر آر تھر شوپن ہار اسکا فلسفہ ہے کہ
”نجات خواہشات کی نفی میں ہے“ یہ تمام عمر مجرد ہی رہا۔
- 20- امریکی صدر جیمس بک ٹن کنوارہ ہی رہا۔
- 21- مشہور فلسفی تھورونے ساری عمر مجرد میں گزارے۔
- 22- برطانوی ادیب اور نقاد چارلس بھی شادی سے بیزار رہا۔
- 23- مشہور امریکی سماجی کارکن جین ایڈمز نے بھی شادی نہ کی۔
- 24- جنوبی افریقہ کا مشہور رہنما سیل رھوڈوز نے بھی سیاہ نہ کیا۔
- 25- فلورنس نانٹ اینگل جو جدید نرسنگ کی بانی ہے یہ اٹلی میں 1820ء میں
ہوئی جنگ کرلمیا میں اسنے بڑے فوجیوں کی جان بچائی اسے برطانیہ کا
سب سے بڑا شہری اعزاز ”آرڈ آف میرٹ“ ملا۔ یہ لوگوں کی جانیں
بچاتی رہی شادی نہیں کی۔
- 26- نوبل انعام کا بانی الفریڈ نوبل تمام عمر تنہا ہی رہا۔
- 27- جرمنی کا مشہور بہراموسیقار لڈوگ وان بیٹھون اس نے موسیقی کی ابتدائی
تعلیم باپ سے لی پھر باپ نے موسیقی ہیڈن کے بلانے پر ویانا کیا وہاں جی
بھر کر موسیقی پہ کام کیا اور نو منفرد سمغیز تخلیق کئے۔ موسیقی میں لگا رہا
شادی نہ کی۔
- 28- برطانیہ کا مشہور ریاضی دان۔ سر آئزک نیوٹن پارلیمنٹ کارکن بھی رہا۔
رائل سوسائٹی کا تاحیات صدر رہا۔ لیکن ”تھا“ اور ”رہا“ کنوارہ ہی۔
- 29- مشہور اطالوی ماہر تعلیم میریامونٹی سوری 1870ء کو ایتھوٹا کے مقام پر
پیدا ہوئی۔۔۔۔ اس نے نفسیات پڑھنے کے بعد یہ بتایا کہ وہ بچے
جنہیں لوگ کندوہن غبی اور نالائق کہتے ہیں۔۔۔۔۔ تعلیم حاصل کر

سکتے ہیں اس نے تجربہ سے ثابت کر دیا یہ دوسروں کے بچوں کو ٹھیک کرتی رہی خود کنواری رہی۔

الیکزینڈر پوپ لندن کا مشہور شاعر اور نقاد ساری عمر مجرد ہی رہا۔

30۔ مدر ٹریسا 1910ء میں یوگوسلاویہ میں پیدا ہوئیں۔ انکو بھارت کا

”پدم شری“ ایوارڈ ملا۔ نوبل انعام ملا۔ پوپ جان امن انعام ملا۔

جو ابر لعل نہرو ایوارڈ ملا۔ یہ ساری عمر خدمت خلق کرتی رہیں۔ شادی نہ کی۔

32۔ دیو جانس کلبی جو ٹب فلاسفر کے نام سے مشہور ہے اس نے شادی نہیں

کی

وہ کہتا ہے میں حدت شہوت کو صبر کی ٹھنڈک سے دبا دیتا ہوں۔



خاوند اور کنوارہ کے بیچ شادی پہ مباحثہ ہوا آپ بھی ملاحظہ فرمائیں

خاوند :- بہت سی باتیں کہنی آسان ہوتی ہیں لیکن کرنی مشکل ----

شادی بھی انہی میں سے ایک ہے۔

کنوارہ :- مرد صرف نصف ہے جب تک اسکی بیوی نہ ہو۔ عورت نصف

جان ہی نہیں نصف ایمان بھی ہے۔

خاوند :- بائرن کا قول ہے شادی سے تمام مسرتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے “

خاوند :- بہت سی باتیں کہنی آسان ہوتی ہیں لیکن کرنی مشکل۔

خاوند :- بہت سی باتیں کہنی آسان ہوتی ہیں لیکن کرنی مشکل بھی۔

شادی انہی میں سے ایک ہے

کنوارہ :- Jeremy Taylor کہتا ہے۔

A good wife is heaven's best gift to man.

His gem of many virtues, his casket of jewels, her voice is sweet music, her smile his brightest day, her kiss the guardian of his innocence, her arms the pale of his safety, her industry his surest wealth, her lips his faithful counselors, her bosoms the softest pillows of care.

جاننا چاہیے یا کچھ بھی نہیں جاننا چاہیے۔

کنوارہ:- سڈنی سمٹھ کا قول ہے کہ شادی ضرور کیجئے خوش قسمتی سے اچھی بیوی مل گئی

تو زندگی پر لطف ہو جائے گی اگر جھگڑا لو ہوگی تو تم فلا سفر بن جاؤ گے۔

خاوند:- شادی یک جوا ہے ابراہام لنکن امریکہ کا پہلا صدر اس جوتے میں ہارا۔

لیوٹالسٹانی ساری زندگی آہوں میں بسر کر گیا۔ شادی نے ان عظیم لوگوں

کی زندگی میں کاتے بھر دیئے۔ نپولین بونا پارٹ کا بھتیجا نپولین سوئم

شادی کر کے دکھوں کی آماجگاہ بن گیا۔

کنوارہ:- سموئیل کا قول ہے ”نیک بیوی دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے“

Andrew Jackson کہتا ہے۔

Heaven will be no heaven to me if I
dont meet my wife there

ترجمہ:- ”جنت میرے لئے جنت نہ ہوگی اگر وہاں میری بیوی نہ ملی“

اور دنیا کے سچے ترین انسان حضرت محمد ﷺ نے فرمایا

النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منا

خاوند:- شادی میں آہ ہی آہ ہے۔

کنوارہ:- شادی میں واہ ہی واہ ہے۔

ہندو کی مائیں:-

ہر ہندو کی پانچ مائیں ہوتی ہیں۔۔۔۔۔

1۔ جس نے اسے جنم دیا

2۔ شیراں والی

3۔ کالی ماتا

4۔ گاؤ ماتا

5۔ دھرتی ماتا

باپ کتنے ہیں؟ تا اطلاع ثانی تحقیق جاری ہے۔ پہلی تین پہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وہ مذہبی معاملہ ہے۔ چوتھی ماں۔ گاں۔ ہندو گائے کو ماں کہتے ہیں سمجھ یہ نہیں آتی کہ اسکے خاوند بیل کو باپ کیوں نہیں کہتے؟ پتر کاروں کے انوسارا ان ماؤں نے دھلی کی سڑکوں پر آوارہ گردی شروع کر رکھی ہے۔ چاہیں تو سڑکوں کے بھیتر رک جائیں کوئی ”بیٹا“ ماں کو روک بھی نہیں سکتا۔۔۔۔۔ کیونکہ ڈر ہوتا ہے۔۔۔۔۔ لیکن گاؤں کے اندر گاؤ ماتا اکثر پلٹی ہوتی دیکھی ہے۔۔۔۔۔ اب یہ معلوم نہیں ہو سکا یہ ماں کو مارنے کے بعد مناتے کس طرح ہیں؟۔

پانچویں ماں دھرتی ماتا ہے یہ روزانہ اس ماں کے سینے پہ دوڑتے ہیں بلکہ منہ پر چڑھ کر دوڑتے ہیں۔ اور اسی ماں کے منہ پر پاخانہ بھی کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اور کشمیر کے اندر ماں کے سینے پہ وہ گل کھلائے ہیں کہ ماں نے منہ چھپا لیا ہے۔۔۔۔۔ وہاں دھرتی ماتا کی پیاس بجھانے کے لئے خون کی نہریں بہادیں لیکن اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک روز ان میں سے 25 بچوں نے ماں کے سینے پہ ایک مسلمان لڑکی سے بلاو کار کیا۔۔۔۔۔

ہندو ماں کے سینے پہ چڑھ کر یہ کام کرتے ہیں!!! تھوڑا سا نیچے ہو کر اسکی ماں کی آہیں سنو۔ گاؤ ماتا۔ ماں ہے تو پھر ماں کو بیچتے کیوں ہو؟ دھرتی ماتا۔۔۔۔۔ ماں ہے۔۔۔۔۔ تو پھر ماتا کے پر اپنی ڈیلر کیوں ہے؟


☆☆☆☆

اگر:-

ایک سیڈنٹ نہ ہوتا اگر۔۔۔۔۔


محبت کا بادشاہ طالبوں سے بھی مطالبہ کرتا ہے

آنکھوں کا پانی۔ اور آئیں



اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلاں بندہ آپ کی بات مانے تو خود کو اسکی نظر میں

پسندیدہ بنا دو۔ وہ آپ کی ہر بات کو پسند کرے گا۔



علم کا پجاری:-

یعنی طالب علم۔۔۔۔۔ ایک وقت تھا طالب علم اور ادب و

احترام مترادفات تھے۔ لوگ طالب علم کو شرافت اور ادب و احترام سے پہچان

لیتے تھے۔ اور اب ان کو انکی شرارتوں اور بد فعلیوں سے پہچان لیتے ہیں۔ جہاں

کچھ نوجوان شیشے توڑتے نظر آئیں۔۔۔۔۔ گاڑیوں کو روکتے نظر آئیں۔۔۔۔۔

ماتر جلاتے نظر آئیں۔۔۔۔۔ شور مچاتے نظر آئیں۔۔۔۔۔ لڑکیوں کو کھیریں۔۔۔۔۔

بزرگوں کو چھیڑیں۔۔۔۔۔ دیکھنے والے کہتے ہیں۔۔۔۔۔ بھائی! یہ

سٹوڈینٹ ہیں۔۔۔۔۔ قوم کے معماروں کو دیکھ کر آہ نہ لکے تو کیا لکے!!!

اچھے طالب علم کی تعریف کرتے ہوئے

JAGDISH CHANDRA BOSE نے کہا۔

A true student does not care for fame, comfort or power. He cares only for knowledge and truth. He Pursues truth by giving up everything for he looks upon his pursuit as the noblest duty of man.

ترجمہ: ایک اچھا اور سچا طالب علم شہرت، آسائش اور اقتدار کی تمنا نہیں کرتا۔ وہ صرف سچائی اور علم کا متلاشی ہوتا

ہے۔ وہ ہر چیز کو ترک کر کے سچائی کی تلاش کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی اس تلاش کو ہی انسان کا سب سے مقدس فرائض

چپ :-

ایک صاحب بڑے زور و شور سے تقریر کر رہے تھے اور موضوع تھا۔۔۔۔۔ ”
خاموشی کے فوائد“ لوگوں نے انکی تقریر سنی اور بہت داد دی !!! آپ بتا
سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر نازک ترین چیز کونسی ہے؟۔۔۔۔۔ کیا کہا۔۔۔۔۔
شیشہ؟۔۔۔۔۔ نہیں۔۔۔۔۔ لکڑی کا جالا؟ نہیں۔۔۔۔۔ یہ
تمام اشیاء ٹوٹتی ہیں ہاتھ لگانے سے لیکن نازک ترین شے ”خاموشی“ ہے
جو صرف بولنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ خاموشی کی تین اقسام ہیں

- i. Silence from words-because inordinate speaking tends to evil.
- ii. Silence from desires and passions because it promotes quietness of spirit.
- iii. Silence from unnecessary and wandering thoughts-because it lays a foundation for a proper reputation and for silence in other repeats.

خاموشی محفوظ قلعہ ہے۔۔۔۔۔ طریقہ سالکاں ہے۔۔۔۔۔ طریقہ عارفاں
ہے۔۔۔۔۔ طریقہ پیامبراں۔۔۔۔۔ خاموشی بہار کا پھول ہے گفتگو،
اور وہ بھی فضول گفتگو۔۔۔۔۔ دل کی بہار کے لئے خزاں ہے۔۔۔۔۔ خاموشی زبردست
بدلہ ہے۔

آہ لوگ خاموش کیوں نہیں ہوتے حالانکہ اس میں زبان بھی ہلانا نہیں پڑتی۔ لاطینی
کہاوت ہے :-

Keep quiet and people will think you a philosopher

ترجمہ :- خاموش رہو لوگ تم کو فلاسفر سمجھیں گے

سونا:-

نیشنل۔۔۔۔۔ یہ بھوکے کیلئے کھانا ہے۔۔۔۔۔ پیاسے
 کیلئے پانی ہے۔۔۔۔۔ زخمی کے لئے مرہم ہے۔۔۔۔۔ دکھی کیلئے آرام ہے۔۔۔۔۔
 سونا بری چیز نہیں ہے البتہ زیادہ سونا برا ہے۔ خوابیدہ میں اور مردہ میں تھوڑا فرق
 ہوتا ہے۔ اٹھو جاگو۔۔۔۔۔ زمانہ نہیں سوتا۔ دریا نہیں سوتا۔۔۔۔۔
 سورج نہیں سوتا۔۔۔۔۔ ستارے نہیں سوتے۔۔۔۔۔ فرشتے
 نہیں سوتے۔۔۔۔۔ زمین نہیں سوتی۔۔۔۔۔ آسمان نہیں سوتا۔۔۔۔۔
 ہوا نہیں سوتی۔۔۔۔۔ اللہ نہیں سوتا۔۔۔۔۔ جاگو!
 ”کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی“ اگر تو علم و حکمت کے خزانے
 چاہتا ہے تو جاگ جب سب سوچکے ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ ایک بات یاد رکھیے گا۔۔۔۔۔
 جاگنا، روح کا جاگنا ہوتا ہے۔ روح سوتی ہے جسم کے جاگنے کا کیا فائدہ؟ روح کو
 جاگو۔۔۔۔۔ اسے اٹھاؤ۔۔۔۔۔ بیدار کرو تاکہ تم حقیقت بلکہ خالق ویکھ
 سکو۔۔۔۔۔ جسم جاگتا ہو تو مخلوق نظر آتی ہے۔۔۔۔۔ پر روح جاگتی ہے تو
 خالق نظر آتا ہے۔

☆☆☆☆

دفعہ 44:-

آہ! اپنے ہی ملک میں ہم غلام ہیں۔۔۔۔۔ یونے کی آزادی صرف طاقتور
 کو ہے۔۔۔۔۔ ”طاقتور“ نظریہ پاکستان، بانی پاکستان کے خلاف بولتا جائے۔۔۔۔۔
 وہ پرچم تک جلا دے اسے کوئی کچھ نہیں کہتا۔۔۔۔۔ غریب یولے کمزور یولے تو
 دفعہ 44 لگتی ہے۔۔۔۔۔ پرندوں کو یونے کی آزادی ہے۔۔۔۔۔ کوئل
 زور زور سے بولتی ہے۔۔۔۔۔ پھول خوش ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ شام کے

وآلہ وسلم نے 1418 سال قبل فرمادیا تھا۔

اذا فانك الحياء فافعل ماشئت۔ جب تیری شرم ختم ہو جائے تو چاہے کر“

☆☆☆☆

مزدور:-

سب سے بڑا سخی ہے۔۔۔۔۔ اپنے خون پسینے کو بیچتا ہے اور قیمت دوسروں کو دیتا ہے اسی کا پسینہ پٹرول بن کر مالکوں کی گاڑی چلاتا ہے۔ اسی کا خون دولت بن کر امیروں کی جیبوں میں جاتا ہے۔۔۔۔۔ اسی کی محنت کو تلہ بن کر مالکوں کی بھٹیاں چلاتی ہے۔۔۔۔۔ رابندر ناتھ ٹیگور کہتا ہے۔

He (God) is there where the tiller is tilling the ground and the path maker is breaking stones.

He is with time in sun and shower

ترجمہ:- وہ (خدا) وہاں ہوتا ہے جہاں کھیت میں کسان کام کر رہا ہوتا ہے اور راستہ بنانے والا پتھر توڑ

رہا ہوتا ہے۔۔۔۔۔

آہیں مزدور کی اس وقت نکلتی ہیں جب وہ روزانہ آٹھ گھنٹے باٹا اور سروس

میں کام کرتا ہے لیکن اسکے بچوں کے پاؤں تنگے ہوتے ہیں!!! وہ گارمنٹس فیکٹری میں کام کرتا ہے لیکن اسکے اپنے بچے سردی میں ٹھٹھہر رہے ہوتے ہیں۔!!!

وہ فلور مل میں آٹا پیستا ہے لیکن اسکے بچے کئی روز سے فاقوں کی آغوش میں ہوتے ہیں!!!

لوگوں کے لئے کڑھتی دھوپ میں مکان بنا رہا ہوتا ہے اور اسکی اپنی چھت ایک بارش کے بعد ایک سو بار ٹپکتی ہے۔

امیرو! تم کو امیر بنانے والا مزدور ہے۔۔۔۔۔ یہ ترقیاں اور خوبصورتیاں

تیسری تربیت گاہ استاد:-

اس کا کافی حصہ ہوتا ہے بچے کی تربیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے باپ کا درجہ دیا ہے اور باپ سے افضل قرار دیا ہے۔ کیونکہ باپ اوپر سے نیچے لاتا ہے اور استاد نیچے سے اوپر لے جاتا ہے

چوتھی تربیت گاہ معاشرہ ہے جس میں وہ رہتا ہے اور میل ملاپ پیدا کرتا ہے۔ ان چاروں میں سے کوئی بھی خراب ہوگا تو بچہ ضرور متاثر ہوگا بچہ دیکھتا زیادہ ہے سنا کم ہے۔ اس لئے بچہ کے سامنے نمونہ بنیے ”تھانیدار“ نہیں۔

JUBERT کہتا ہے

Children have more need of model than of critic.

ترجمہ:- بچے کو نمونہ کی ضرورت ہوتی ہے تنقید کی نہیں

جو کچھ بھی بچے کو سیکھانا چاہتے ہو وہ خود کرو جلدی سیکھ جائے گا۔

☆☆☆☆

کیسے؟:-

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| پیشابا پ کی کیسے عزت کرے ؟ | باپ نے اپنے باپ کی نہیں کی |
| نصیت کا اثر کیسے ہو ؟ | ناصح بے عمل ہے۔ |
| ملک ترقی کیسے کرے ؟ | رہنما رہن ہے۔ |
| اسلام یورپ میں کیسے پھیلے ؟ | مسلمان خود مادیت پسند ہے۔ |
| بچے pass کیسے ہوں ؟ | وہ ہر ایک کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں |
| استاد کا احترام کیسے ہو ؟ | انہوں نے تعلیم کو پیشہ بنا لیا ہے۔ |
| ظلم کیسے رکے ؟ | ہر ایک کا معبود روپیہ ہے۔ |

than to the object on which it is poured.

ترجمہ: ”نفرت کی مثال ایک قسم کے تیزاب کی سی ہے۔ اک عام برتن میں اسکو رکھا جائے تو وہ

اپنے برتن کو اس سے زیادہ نقصان پہنچائے گا جتنا اسکو جس پر وہ تیزاب ڈالا جائے گا۔

☆☆☆☆

مشکل :-

کسی نے کیا خوب کہا

It is not ease but effort, not facility by difficulty that makes men.

ترجمہ: سہولت نہیں بلکہ جدوجہد آسانی نہیں بلکہ مشکل وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔

بلکہ میں تو کہوں گا مصیبت بھی ایک طرح سے رحمت ہے۔۔۔۔۔ وہ

کیسے؟ وہ ایسے۔۔۔۔۔ کہ جب مصیبت آتی ہے تو یاد دلاتی ہے۔۔۔۔۔ بیوی کو

خاوند یاد آتا ہے۔ بچے کو ماں یاد آتی ہے۔ بہن کو ویر یاد آتا ہے۔ مرید کو پیر یاد

آتا ہے۔ امراء کو فقیر یاد آتا ہے۔ دوستوں کو دلگیر۔ مجاہدوں کو سالار اور بندوں کو

پروردگار یاد آتا ہے۔ مصیبت عزم سیکھلاتی ہے بچھڑوں کی یاد دلاتی ہے۔ بیداری

کرتی ہے احساس کو۔۔۔۔۔ مصیبت کو مصیبت نہ سمجھو۔ مصیبت کو

مصیبت سمجھ لینا ایک اور مصیبت ہے۔ مصیبت کو عنایت خداوندی سمجھو یا کچھ

نہ سمجھو۔

اگر آپ ان میں الجھ گئے یا ان سے الجھتے تو منزل پہ ویر سے پہنچیں گے۔

on Landers

Maturity is perseverance, sweating on a project set back.

ترجمہ: رکاوٹوں کے باوجود۔۔۔۔۔ میلے لئے اپنی محنت جاری رکھنے والا انسان بخشتہ ہے۔

مسٹر کیلٹ (E-E-KELLET) نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت بیان کی ہے کہ

He faced adversity with the determination to wring success out of failure.

ترجمہ :- انہوں نے مشکلات کا مقابلہ اس طرح کیا کہ ناکامیوں سے کامیابیوں کو نچوڑا

☆☆☆☆

قاتل :-

جو چند کو قتل کروائے وہ قاتل اور بولا کھوں کو کروائے وہ فاتح اور انقلابی بلکہ امام

انقلاب -----!!!!

قاتل کیلئے تختہ فاتح کیلئے تخت -----!!!!

قاتل کے لئے نفرت اور فاتح کیلئے محبت -----!!!!

قاتل کیلئے گمنامی اور فاتح کیلئے شہرت لافانی -----!!!!

واہ یا آہ کچھ سمجھ نہیں آتی ----- آہ تو اس وقت زوروں پر ہوتی ہے جب

جسم کے قاتل کو پھانسی دی جاتی ہے۔ لیکن روح کے قاتل کو کردار کے قاتل کو

پوچھا تک نہیں جاتا۔ Tryon Edwards کہتا ہے۔

The tongue of slanderer is brother to the dagger of the assassin

ترجمہ :- ”غیبت کرنے والے کی زبان قاتل کے خنجر کی بھائی ہے“

جو جسم کو گھائل کرے وہ قاتل تو روح کو گھائل کرنا والا کروار کو قتل کرنا والا!!?

پھول توڑنے والا کمینہ ہے تو دل توڑنے والا رشتے توڑنے والا -----!!!!?

بستر چورانے والا چور ہے تو نیند چرانے والا -----!!!!?

☆☆☆☆

ظاہر کہ باطن؟

شیخ سعدی فرماتے ہیں ”یہ ضروری نہیں کہ جو خوبصورت ہو وہ خوب سیرت بھی ہو کام کی چیز اندر ہوتی ہے باہر نہیں“ اندر خوبی نہ ہو تو ظاہری کا کیا فائدہ اندر مغز نہ ہو تو خالی اخروٹ اور بادام کس کام کے؟ رِسکن (RISKIN) نے خوب کہا ہے۔

Remember that the most beautiful things in the world are the most useless, peacocks and lilies, for instance.

ترجمہ:- یاد رکھو اس دنیا میں زیادہ خوبصورت چیز زیادہ فضول ہوتی ہے جیسے کنول اور مور

بعض لوگ شادی کے وقت خوبصورتی کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرینک فرٹ یونیورسٹی کے ماہر نفسیات ڈاکٹر جان اوکرت (Dr. John Ockert) نے ایک جائزہ کے بعد کہا

Gorgeous women feel beauty is the only asset and they cannot bear the aging.

واقعی بات درست ہے جو بیوی قبول صورت ہوتی ہے وہ اپنی خدمت و اخلاق سے خاوند کا دل جیتنے کی کوشش کرے گی۔۔۔۔ اور خوبصورت، کے قدموں میں تو ویسے ہی ”دلوں“ کی منڈی لگی ہوتی ہے۔۔۔۔۔ خوریت عورتوں کے خاوندوں کی آہیں اکثر سنی ہیں۔

☆☆☆☆

یکم اپریل --- اس دن انگریز خوب جھوٹ بولتے تھے (ہیں) --- یعنی انگریزوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ سال میں ایک روز جھوٹ بولتے ہیں اور باقی 364 دن سچ بولتے ہیں۔ پاکستانیوں کیلئے سارا سال ہی یکم اپریل ہے کاش ہمارا ایک دن ہو تا جب ہم 14 کروڑ سچ بولتے اور اس دن ساری قوم یہ جملہ بولتی۔

” آج وعدہ کرتے ہیں آئندہ جھوٹ نہ بولیں گے “ سچ لافانی ہے --- جھوٹ فانی ہے

DISRAELI نے خوب کہا ہے۔

Time is precious, but truth is more precious than time.

ترجمہ: ٹائم سے بھی زیادہ قیمتی سچ ہے

ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ” میں جھوٹ نہیں مارتا “ میں نے کہا بھلے مانس

یہ تو بہت بری بات ہے جھوٹ مارو --- ضرور مارو --- یہ ہے ہی مارنے کی چیز ---

جھوٹ مارو پر یوں نہ --- کیونکہ زبان و ذہن عطا کرنے والے نے کہا ہے لعنتہ اللہ

علی الکاذبین

☆☆☆☆

دودھ :-

السان و جانور اپنے بچے کو ابتداء میں جو غذا دیتے ہیں وہ دودھ ہے۔ اور یہ غذا ہر

بچے کی ماں کے پاس ہوتی ہے آپ نے سوچا کیا ہوگا کہ ہر جانور کا بچہ اپنی ہی ماں کا دودھ پیتا

ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گائے کا بچہ اونٹنی کا دودھ پی رہا ہو۔ بکری کا بچہ شیرنی کا دودھ پی رہا

ہو۔ ہرنی کا بچہ نیل گائے کا دودھ پی رہا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ انسان کے بچے کو

جانور کی ماں کا دودھ کیوں دیتے ہیں؟ اگر مائیں اپنے بچے کو دو سال دودھ پلائیں گی تو بچہ اور

زچہ دونوں متعدد بیماریوں سے بچ

جائیں گے۔

☆☆☆☆

روزِ ہی (گندگی کا دھیر) :-

جونہی میں سویا میرا ضمیر جاگ گیا۔ میری آنکھیں بند ہوئیں تو دل نے دیکھنا شروع کر دیا۔ میرا جسم بستر پر گر گیا اور روح سیر کے کیلئے نکل گئی۔ میں ایک روزِ ہی کے قریب سے گزرا تو آہوں کی آواز آئی۔ درد ایک ساتھ آوازیں مختلف تھیں۔۔۔۔۔ وہاں ایک ٹوٹا جو تادیکھا اس کا پیٹ گھسا ہوا تھا۔ اور جیڑا ٹوٹا ہوا تھا۔ مجھے اسکی حالت پر رحم آیا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا۔۔۔۔۔ وہ بولارک جاؤ۔ ہاتھ مت لگانا۔ تم یوفا ہو۔ احسان فراموش ہو۔ یہ میری حالت تم نے بنائی ہے تم سب انسان ایک سے ہو۔ میں نے تمہارے پاؤں کو بچانے کے لئے کتنے دکھ برداشت کئے اپنے ننھے سے جسم پر تمہارا سارا بوجھ برداشت کیا خود پیٹ کے بل چلا لیکن تجھے کندھوں پر اٹھایا۔ خود کپڑے میں رہا تیرے پاؤں کو سوکھا رکھا۔ کیل، شیشہ، گرمی، سردی اپنے جسم پہ جھیلتا رہا صرف اس لئے کہ تجھے دکھ نہ پہنچے تجھے یاد ہے ایک دن تو نے مجھے اتار دیا تھا اور نلکے تک ہی گیا تھا کہ پاؤں گندے ہو گئے اور کاٹا بھی چھڑ گیا۔ یاد ہے کتنی دیر آہ آہ کرتے رہے تھے؟ تجھے سکھ دینے کے لئے اپنا آپ تباہ کر لیا۔

ایک سال تک تو میں تیرا بوجھ برداشت کرتا رہا۔ اور جب میں کمزور ہو گیا تو ایک روز تیرے زور کی وجہ سے جیڑا ٹوٹ گیا۔ اور تو نے پھر اٹھا کر روڑی پر پھینک دیا۔ ظالم میری خدمت کا یہ صلہ دیا؟۔۔۔۔۔ میں یہاں گند میں رہتا ہوں بھلا ہو روڑی کا یہ ہم مظلوموں کا مسکن ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ چیزیں آکر رہتی ہیں جنہیں انسان خدمت لینے کے بعد دھتکار دیتا ہے۔ اوہرو دیکھو وہ کاغذ ہے۔۔۔۔۔ بالکل صاف تھا اس پر تو اپنے خیال تھوپتا رہا۔ اور اسکا چہرہ نیلا پیلا

کالا ہو گیا۔ اور روئی بنا کر پھینک دیا۔ !!!

وہ دیکھو وہ پلاسٹک اور چینی کے ٹوٹے ہوئے برتن۔ انہی کے اندر تو کھاتا تھا؟ تیری بے احتیاطی کی وجہ سے ٹوٹ گئے۔ اور تو نے انکی خدمات کا ذرا خیال نہ کیا اور روڑی پر پھینک دیا !!!

وہ دیکھو۔۔۔۔۔ وہ شیشے کی بوتل ہے۔۔۔۔۔ اس کے اندر پرفیوم تھا خوشبو تھی اس کے سر کو دیا کر ساری خوشبو نکال لی جب مفاد پورا ہو گیا تو پھینک دیا۔۔۔۔۔ یہ دیکھو یہ سالن ہے۔۔۔ تمہیں بدبو آرہی ہوگی؟ لیکن یہ ایک عمدہ سبزی تھی۔ جب اپنے کھیت میں تھی تو خوبصورت تھی حسن کا شاہکار تھی۔ لیکن جو نہی تیرے پاس آئی خراب ہو گئی۔ یہ روڑی انسان کی ستانی ہوئی اشیاء کا مسکن۔ کوئی بات نہیں تم نے ہمیں دھتکار دیا تو کیا ہوا؟ ہمارے چاہنے والے بھی ہیں ہمیں ڈھونڈنے والے بھی ہیں ہمیں پہلو سے لگانے والے بھی ہیں۔ ہم سے بھی عورتیں اور بچے پیار کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں صبح کا ٹائم ہے دوپہے اور دو عورتیں آئیں اور روڑی سے کاغذ پلاسٹک اور بوتلیں وغیرہ اٹھا اٹھا کر اپنے پاس رکھنے لگی۔

☆☆☆☆

اٹھاتے ہیں۔ ماں باپ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ قوم کا بوجھ اٹھاتے ہیں زندگی کا بوجھ اٹھارے ہیں۔ اولاد کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آنسوؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ میں ان بوجھ اٹھانے والے کو ہی ویٹ لفٹر تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن آہ! بہت سے پہلوانوں کو گرتے دیکھا ہے جب زندگی ان کے لئے بوجھ بن گئی اولاد بوجھ بنی۔ طعنہ بوجھ بنا۔ میں سوچتا ہوں یہ کیسے بوجھ ہیں؟ نہ نظر آتے ہیں نہ وزن رکھتے ہیں پھر بھی لوگ اٹھا نہیں سکتے۔ اللہ ان کندھوں کو سلامت رکھے جو یہ بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔

☆☆☆☆

شیطان کے ووٹ ہر دور میں زیادہ رہے!

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان پہ غلبہ پاؤ۔ سوال پیدا ہوتا ہے شیطان کے مقابلے میں انسان کی طاقت کتنی ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیں۔

انسان

شیطان

یہ نظر آتا ہے

اسکے آگے حجاب رکاوٹ ہے

یہ چند سالوں بعد مر جائے گا

یہ سڑک پر مسلسل نہیں دور سکتا

یہ بیچارہ اکیلا ہے

یہ بے اختیار ہے

یہ بے خبر ہے۔

یہ نظر نہیں آتا

ایک جگہ سے سب کو دیکھتا ہے

قیامت تک زندہ رہے گا

یہ خون میں دوڑ جاتا ہے

شیطان کا بڑا قبیلہ ہے

اسکے پاس اقتدار ہے

اسکو ہر کام کی خبر ہو جاتی ہے

ہم شیطان کو اللہ کے برابر کی طاقت تسلیم نہیں کر سکتے جس طرح ہندوؤں مجوسیوں نے

نیکی اور بدی کے دیوتا بنائے ہیں کیونکہ شیطان جن ہے اور جن اللہ کی مخلوق خالق کی باغی تو

ہو سکتی ہے برابر نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ مانتے والی بات ہے کہ ہر دور میں شیطان کی

اکثریت رہی ہے۔

اسکے پیروکار رجمن سے زیادہ رہے ہیں۔ آج کے دور میں تو اکثر ممالک میں اسکی حکومت ہے اور جو اسلامی حکومتیں ہیں وہاں بھی درپردہ وہ حکومت کرتا ہے۔ اور اگر آپ مجھے اپنی اندھی نکتہ چینی کے تیروں کا نشانہ نہ بنائیں تو ایک بات عرض کروں مولویوں کا کاروبار بھی اسکی کوجہ سے چل رہا ہے۔ کیونکہ شیطان نہ ہوتا تو سب اللہ والے ہوتے تو پھر مولویوں کا کیا کام؟ مولوی شیطان سے بچنے کے گر اور طریقے بتاتے ہیں۔ لوگ انکی ان باتوں کو سننے کے لئے پیسے خرچ کرتے ہیں اگر شیطان نہ ہوتا کیا لوگ اپنے خون پسینے کی کمائی مولویوں کو دیتے؟ شیطان کے وجود سے ایک نیا محکمہ وجود میں آیا۔ مولوی اس محکمے کا ایک کارکن ہے۔ شیطان دنیا میں قہقہے دیتا ہے اور آخرت میں آہیں۔ رحمان کے بندوں کے لئے یہاں آہیں ہیں اور آخرت میں مسرت۔ اب آپ ہی بتائیں۔ قلیل آہ و فغاں بہتر ہے یا طویل آہ و فغاں؟ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی رات کی تاریکی میں زور ہاتھ یا اللہ میری مدد کر شیطان تیرے سامنے اکر گیا تھا میں اسے کیسے مغلوب کروں گا؟؟؟؟ آواز آئی میرے بندے کوشش کر ہم تیرے ساتھ ہیں۔ شیطان کو مغلوب کرنا واقعی مشکل ہے۔ تبھی تو جیتنے والے کو سب سے بڑا انعام دیا ہے۔ یعنی جنت۔

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم

☆☆☆☆

راگ میں آگ :-

لوگ موسیقی کو روح کی غذا قرار دیتے ہیں کارلائل (CARLYLE) جیسے بھی ہیں جو اسے (Speech of angels) کہتے ہیں اور کچھ کی تو آرزو ہی یہی ہے

Let me die to the sounds of delicious music.

اور لوتھر (LUTHER) نے تو کمال ہی کر دیا اسکا بیان سنیں۔

Music is the art of the prophet, The
agitations of the soil! it is the one of the most
magnificent and delightful presents God has given us.

اگر روح کی غذا موسیقی ہے تو غذا تو وجود کو طاقتور بناتی ہے اور روح کا طاقتور ہونا
ولایت کی نشانی ہے کیا وجہ ہے گانے سننے والے اور سنانے والے روحانی طور پر بہت ہی
کمزور ہوتے ہیں؟؟؟؟؟

روح کو طاقتور بنانا اسلام کا اولین فرض ہے۔ اگر یہ غذا ہے تو اسلام نے موسیقی
کی طرف کیوں نہ توجہ دی۔ روح کی غذا موسیقی نہیں ہے۔ قرآن مجید ہے۔ آپ قرآن
پڑھیں روح کو سکون ملے گا۔ جو روح موسیقی کو غذا بناتی ہے وہ مردار کھاتی ہے۔
جارج برنارڈشا نے اپنی کتاب ”مین اینڈ سپرین“ میں کہا

Hell is full of musical amateurs.

ترجمہ:- دوزخ موسیقی کے شائقین سے پر ہے

☆☆☆☆

تبلیغ:-

تبلیغ ضرور کیجیے خواہ آپ خود عمل نہ بھی کرتے ہوں۔ کیونکہ چراغ اندھے
نے پکڑا ہوا اندھے کو کچھ فائدہ نہ ہوگا دوسرا تو روشنی سے فائدہ اٹھالے گا۔
آپ ٹھیک کہتے ہیں گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہوں گدھے کو کیا فائدہ؟ مانا
کہ گدھے کو کوئی فائدہ نہ ہوگا لیکن اسے تو فائدہ ہوگا جو اس ”گدھے“ کو پکڑ لے گا۔
میں بتاتا چلوں کہ تبلیغ ہوتی کیا ہے؟ ایچ ایل والی لینڈ (H.L.Wayland) نے
خوب کہا۔

As the great test of medical practice is that it heals the
patient, so the great test of preaching is that it converts
and builds up the hearers.

ترجمہ: جس طرح پیشہء طب کا سب سے بڑا امتحان مریض کا آرام ہے۔ اس طرح تبلیغ کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ یہ سننے والوں کو بیدی دے اور ان کی تعمیر کرے۔

☆☆☆☆

امیر و غریب کے درمیان مکالمہ

امیر و غریب کے درمیان ”دولت اچھی ہے کہ بری“ کے موضوع پر عجیب و غریب بلکہ عجیب و امیر مکالمہ ہوا غریب دولت کی برائیاں بیان کرتا ہے اور امیر دولت کی اچھائیاں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔

غریب :- حضرت علیؑ فرماتے ہیں ”دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو یہ وہ لمبی مستی ہے جس کے نشے کو سوائے موت کے دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔“ روپے کی خواہش میں عمر گزارنے والا ایک شرابی سے بھی بدتر ہے کیونکہ شرابی نشے کی حالت میں تو سرور حاصل کر لیتا ہے لیکن دولت کا طلبگار کسی وقت بھی آرام نہیں پاتا۔

امیر :- حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ”دولت بہت سے دوست پیدا کرتی ہے دولت مند مسکین پر حکمران ہوتا ہے اور غریب سے تو اسکے اپنے ہی دور بھاگتے ہیں“ دنیا میں گھوم کر دیکھ لو مفلس کیلئے کوئی دروازہ بھی نہیں کھلا۔ غریب :- حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ”دنیا کے مال و اسباب پر مغرور نہ ہو کیا خبر اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے۔ جو شخص خزانہ جمع کرتا ہے وہ خدا کے نزدیک سب سے غریب ہے اور جو غریب ہے وہ سب سے امیر ہے“

اگر دولت اللہ کے نزدیک قابل قدر ہوتی تو مشرکوں اور بد معاشوں کو ہرگز نہ ملتی۔

امیر:- ارسطو کا قول ہے ”غربت انقلاب اور جرم کی ماں ہے“ مصائب کے گرداب سے لکھنا چاہتے ہو تو دولت ہی کی کشتی کام دے گی۔ برناؤٹھانے اس لئے کہا ہے دنیا کا سب سے بڑا اور بدترین گناہ افلاس ہے باقی تمام گناہ اسکے مقابلے میں مجسم نیکیاں ہیں۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں محتاجی یعنی غریبی دین کو تنگ۔ عقل کو کمزور اور مروت کو زائل کرتی ہے۔

غریب:- سقراط کہتا ہے کہ خوبی اور نیکی دولت سے نہیں پیدا ہوتی تلسی داس نے تو کمال کہا ہے کہ دو+لت (یعنی دو عاداتیں) دولت کی دو عاداتیں ہیں

- 1- آتی ہے تو آدمی کو اندھا کرتی ہے
- 2- جاتی ہے تو بوقوف بنا جاتی ہے۔

لیکن کہتا ہے دولت کی زیادتی تو جوانی کی تباہی کا ذریعہ ہے۔

امیر:- آسکروائٹڈ کہتا ہے کہ ”بچپن ہی سے وہ دولت کو بہت اہم سمجھتا تھا اور بڑھاپے میں یقین ہو گیا۔ کہ دولت زندگی میں بے حد اہمیت رکھتی ہے“ دولت کو سونے کی کنجی کہا جاتا ہے۔ اس سے تمام اقسام کے تالے کھل جاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مفلس کی خوشیاں بھی غموں سے خالی نہیں ہوتیں۔

غریب:- دولت کے نقصانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جوں جوں آپ بوڑھے ہوتے جائیں گے رشتہ دار آپ کی زندگی سے زیادہ موت کی خواہش کریں گے۔ مانا کہ دولت سونے کی چابی ہے لیکن یہ چابی آپ کو ہم نے دی ہے WEALTH نے ٹھیک کہا تھا۔

All wealth is the product of labor.

ترجمہ:- تمام دولت مزدور کی پیداوار ہے:-

اور ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں جو دنیا میں غنی ہیں وہ آخرت میں فقیر ہوں گے۔

امیر:- آدمی غریب ہو جائے تو برائیوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ خیانت، بددیانتی اور بے وفائی جیسے کمینے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ دولت چھٹی حس ہے جسکے بغیر جو اس خمسہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ دولت کمانے اور خرچ کرنے کی چیز ہے جو اس سے نفرت کرتے ہیں وہ عقلمند نہیں ہیں۔

غریب:- دولت کمینے کے ہاتھ آجائے تو پانچ بڑے عیب اسکے اندر پیدا ہو جاتے ہیں

1- دولت سر یا بنکر اس کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہ اکڑا کرڑ کر رہتا ہے۔

2- دولت پر وہ بنکر آنکھوں پہ پڑ جاتی ہے اسے برائی و بھلائی نظر نہیں آتی

3- دولت روئی بنکر کانوں میں ٹھس جاتی ہے وہ کسی کی نصیحت نہیں سنتا

4- دولت نوالہ بنکر منہ کو بھر دیتی ہے منہ سے اللہ کا ذکر نہیں نکلتا

5- دولت رسی بنکر ہاتھوں کو باندھ دیتی ہے وہ غریب کی مدد کیلئے نہیں کھلتے

اس لئے (BEETHOVEN) کہتا ہے۔

Recommend to your children virtue, that alone can make them happy, not gold.

ترجمہ:- اپنے بچوں کو ذرہ ذرہ نیک کی پدایت کرو کہ انہیں صرف نیک ہی سے مسرت

مل سکتی ہے“

مت سمجھو کہ دولت تمہاری تمام ضروریات پوری کر سکتی ہے۔ دولت سے تم

مولٹی قوم خرید سکتے ہو۔ نیند نہیں۔ ہمارے پاس مولٹی قوم تو نہیں ہوتا نیند

مکمل ہوتی ہے۔

تم کتابیں تو خرید سکتے ہو علم نہیں۔ ہم کتابیں تو نہیں لے سکتے پڑھتے شوق سے

ہیں دولت سے خوشامد خرید سکتے ہو محبت نہیں۔ ہم دولت والا کام محبت سے

لیتے ہیں۔ دولت سے تم زیورات خرید سکتے ہو حسن نہیں۔ چہرے پر رونق

اطمینان کی وجہ سے ہوتی ہے اور غریب اطمینان و سکون کی دولت سے مالا مال ہوتا

ہے۔ دولت سے تم ادویات خرید سکتے ہو صحت نہیں۔ دولت سے کھانا خرید سکتے ہو بھوک نہیں۔ دولت سے تم جسمانی راحت خرید سکتے ہو مگر روحانی نہیں۔

امیر:- یہ تم نے غلط کہا ہے کہ دولت سے کچھ نہیں خریدا جاسکتا۔ ہم نیند کی گولیاں لیکر نیند بھی خرید لیتے ہیں۔ ہم دولت سے بڑے بڑے مصنف اور شاعر خرید لیتے ہیں جو ہمارے نام کے مضامین اور شاعری لکھتے ہیں۔ ہم غریبوں بیواؤں اور یتیموں کو چندہ دیکر انکی محبت بھی خرید لیتے ہیں۔ اور مساجد و مدارس میں چندہ دیکر مذہبی لوگوں کی محبت بھی خرید لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دولت کو خیر کہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مفلس آدمی تو اسلام کے تمام ارکان بھی ادا نہیں کر سکتا۔

نماز:- نماز ہی کو لے لو جو آدمی تین روز سے بھوکا ہوگا اسکی نماز میں خاک نشوع و خضوع ہوگا؟ اس لئے فقہ کا مسئلہ ہے جسے شدید بھوک لگی ہو اور کھانا تیار ہو وہ پہلے کھانا کھائے۔

حج:- یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ بتاؤ یہ دولت کے بغیر ہو سکتا ہے؟

زکوٰۃ:- غریبو! بتاؤ تم یہ نیکی کر سکتے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو مرتبہ جنت خریدی تھی بتاؤ کیسے؟ تم دولت کو برا کہتے ہو زکوٰۃ و خیرات کی آیات کن کیلئے اتاری ہیں؟

ایک بات یاد رکھنا دولت بذات خود بری نہیں ہے کاغذ کا ٹکڑا اور سونے چاندی و تانبے کے سکے کیا نیک اور برے ہوں گے۔ حقیقت میں اسکا استعمال برا ہوتا ہے۔ ایک آدمی اسلحے سے شریف آدمی کو مار دے تو اسلحہ کا کیا قصور ہے؟ کوئی آدمی چھری سے سبزی کے بجائے ہاتھ کاٹ لے تو چھری کا کیا قصور؟ بحث ختم ہوئی تو مجمع اٹھ گیا اور مجمع سے آواز آئی

Poverty and wealth both are sins.

”دولت اور افلاس دونوں شر ہیں“ میں نے کہا

Excess of every thing is bad

ترجمہ:- زیادتی ہر چیز کی بری ہے۔



سالگرہ:-

میں 13 مارچ کو اپنے سرجی کی سالگرہ پہ گیا۔ وہاں اور چیزوں کے علاوہ کیک اور موم بتیاں نظر آئیں۔ ہر چیز پہ تبسم رقص کر رہا تھا۔ میری نظر شمع پر پڑی پوری محفل میں صرف وہ رو رہی تھی۔ میں اسکے قریب چلا گیا اور پوچھا اے شمع! ہنسی کی محفل میں سرد آہیں کیوں بھر رہی ہو؟ تجھے کوئی اپنا غم یاد آیا ہے یا شریکان محفل سے کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ کہنے لگی کسی نے کچھ نہیں کہا میں تو تیرے دوست کی حالت دیکھ کر رو رہی ہوں وہ اتنا نہیں جانتے آج واہ واہ کرنے کا دن نہیں آہ کا دن ہے۔ بتاؤ ایک آدمی ایسی کار میں بیٹھا ہو جس کے بریک کوئی نہیں اور وہ تیزی سے ایسے راستے پہ جا رہی ہو جسکے آخر میں گہری کھائی ہے۔ اسے ہنسنا چاہیے کہ رونا چاہیے؟ میں نے کہا ممکن ہونا چاہیے کیونکہ لمحہ بہ لمحہ وہ موت کے قریب ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ ہسنے لگ جائے تو اسے یوقوف کہیں گے۔ کہنے لگی بس یہی توجہ ہے میں سالگرہ پر روتی ہوں۔ چیخ چیخ کر کہتی ہوں تم تو آج کے دن موت کے قریب ہو گئے ہو۔۔۔۔۔ وقت ضائع نہ کرو۔ یہ سوچنے کا دن ہے۔۔۔۔۔ اپنی پیدائش پر۔۔۔۔۔ خالق پر۔۔۔۔۔ مقصد زندگی پر۔۔۔۔۔ ناکامیوں پر۔۔۔۔۔ مجھے شمع کی باتیں بڑی اچھی لگیں۔ میں اسے اٹھا کر ہوا سے بچا کر ایک کونے میں لے گیا میں نے کہا تیری باتوں میں پختگی بڑی ہے۔ یہ تو نے کہاں سے حاصل کی؟ کہنے لگی راتوں کو جاگتی ہوں۔ میں نے کہا کوئی نصیحت؟ اس نے تھوڑی دیر سر نہلایا۔ پھر سر بلند کیا اور کہا سلو! دوسروں کو روشنی دو خواہ خود جلنا پڑے۔ مرنا تو ویسے بھی ہے کیوں نہ

ظلم ناجائز ہے جب تک کوئی کرے۔

بابا جی نے کمزور آواز میں زور لاتے ہوئے کہا اب تم بتاؤ یہ اسلام سے مذاق نہیں ہے؟
جب ہم یورپ سے کہتے ہیں اسلام دنیا کا عظیم مذہب ہے تو انگریز ہم سے سوال کرتا ہے
یہ جو بنگلہ دیش اور پاکستان کا ہے؟

جو عراق و ایران کا ہے؟

کوئی قرآن پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو ہو جائے لیکن مسلمان کو دیکھ کر کوئی مسلمان
نہیں ہوتا اسکی وجہ یہ ہے کہ جن اشیاء سے بیزار ہو کر انگریز پناہ لینا چاہتا ہے مسلمان کی نظر
میں وہ شراب شباب، منشیات، مادیت پرستی پسندیدہ ہیں۔
اللہ ہماری مدد فرما۔

☆☆☆☆

صرف اتحاد پہ زور نہ دو۔ محبت پہ زور دو۔ محبت ہوگی تو اتحاد خود بخود پیدا ہو
جائے گا۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

دشمن دوست ہوتا ہے :-

پڑھ کر حیران ہو گئے؟ میں بتاتا ہوں۔ بلندی پانے کیلئے۔ خود کو گناہ سے
بچانے کے لئے۔ دشمن کی اشد ضرورت ہے۔ انگلش کا مقولہ ہے۔

To be successful you need friends,

To be very successful you need enemies.

”تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دوستوں کی ضرورت ہے۔ تم بہت کامیاب ہونا
چاہتے ہو تو دشمنوں کی ضرورت ہے“ کچھ لوگ اللہ کے ڈر سے غلطی نہیں کرتے اور
کچھ لوگ اس وجہ سے غلطی نہیں کرتے دشمن کو خبر ہو گئی تو دھنڈورا پیٹ جائے گا۔
دشمن آپ کو آپ کی اغلاط سے آگاہ کرتا ہے۔ وہ کتنا بڑا کام رات دن لگا کر مفت میں کر

مسلمان تاجر صرف مال ہی نہیں بیچتا بلکہ وہ ”مولوی“ بھی ہوتا ہے۔ ہندوستان کے اندر اسلام ان تاجروں کے ہی ذریعہ پہنچا جو عرب سے تجارت کی غرض سے ادھر آئے تھے۔ تریوندرم ریاست کیرالا کا دارالسلطنت ہے یہاں اسلام عرب تاجروں کے ذریعے پہنچا۔ PREACHING OF ISLAM کے صفحہ 269 پر پروفیسر آرنلڈ لکھتے ہیں۔

”وہ عرب تاجروں کے غیر سیاسی اور تعمیری انداز نے لوگوں کو اسلام کا گرویدہ بنا دیا۔ نہ صرف عوام بلکہ راجے مہاراجے بھی اسلام سے متاثر ہوئے۔ کالی کٹ کے راجہ زموران کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ عرب تاجروں کا سرپرست بن گیا اور اپنی رعایا میں قبول اسلام کی حوصلہ افزائی کرنے لگا۔“

مالدیپ کے متعلق پروفیسر آرنلڈ لکھتے ہیں۔

”گمان غالب ہے کہ مالا بار کے راستے اسلام مالدیپ پہنچا اس جزیرے کے باشندے عرب اور ایرانی تاجروں کے ذریعے مسلمان ہوئے“

Awakening Of Muslim میں پروفیسر بشیر ملک لکھتے ہیں۔

There are four different groups of Muslims who implanted Islam into the soil of sub continent.

1. Came the Turks Muslim traders from Central Asia.
2. Pathans from Afghanistan.
3. The Mughals.
4. The Muslim Missionaries.

After the death of Holy Prophet (P.B.U.H.) the establishment of Muslim Society by ARAB TRADERS STRETCHED continuously from ARABIA as center, West to Atlantic including SPAIN, FRANCE which extends between Qxus and Jaxarters from Caspian to Mount Imans and East from the bank of Indus.

MALAYSIA is an important Muslim country in south East Asia. Islam spread here owing to the efforts of Arab Muslim traders. Indonesia consists of a very large number of island. Islam came to these islands through the Arab traders.

ترجمہ:- ”برصغیر میں اسلام پھیلانے کا باعث مسلمانوں کے چار گروہ ہیں۔

1۔ وسطی ایشیا کے مسلمان ترک تاجر

2۔ افغانستان سے پٹھان

3۔ مغل

4۔ مسلمان تبلیغی جماعتیں۔

حضرت محمد ﷺ کے وصال کے بعد اسلامی معاشرہ جس کا پہلا و عرب تاجروں کے ذریعہ ہوا۔ وہ عربی شروع ہوا اسپین کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا مغربی اٹلانٹک تک پہنچا فرانس میں وہ Oxus اور Jaxartes کے درمیان پہلا۔ پہلے Caspian سے Mountmanas تک اور اسکے مشرقی حصے میں دریائے سندھ کے کناروں سے ہوتا ہوا پہلا۔ (یعنی وادی سندھ سے جانے والے تاجر تعلقہ کے ذریعے)

جواب مشرقی ایشیا کا اہم ملک ہے یہاں پر اسلام عرب مسلم تاجروں کے ذریعے پھیلنا
انڈونیشیا بڑی تعداد میں جزیروں پر مشتمل ہے۔ ان جزائر میں اسلام عرب تاجروں اور
جنوبی انڈیا سے آنے والوں کے ذریعے پھیلنا۔

میں اپنے موقف پر دلائل دے رہا تھا کہ تاجروں نے وہی کام کیا جو مبلغ کرتے
ہیں یہ عرب تاجر جہاں گئے وہاں کے لوگوں نے انکے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر نہ
صرف مال دیا بلکہ جسم و جان دل و دماغ تک دے دیئے۔ اور لوگ مسلمان تاجروں ہی سے
مال لیتے تھے۔ اور اب یہ حال ہے کہ مسلمان خود میڈان پاکستان نہیں خریدتے بلکہ میڈ
ان جاپان خریدتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم تک جاپان کا یہ حال تھا کہ یورپ جاپان کا
مال اپنی دکان پر رکھنا اپنی ہتک سمجھتا تھا۔ جاپانیوں نے اپنی مصنوعات کے معیار کی
طرف توجہ دی۔ 1949ء میں جاپان میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ایڈورڈ
ڈیمنگ (Dr. EDWARD. DEMING) نے کہا۔

”اگر تم اپنی صنعت کو عروج دینا چاہتے ہو تو کو الٹی کنٹرول کا نظریہ اپناؤ۔ یعنی
تمہاری بنی ہوئی چیز کے اندر زیرو کے برابر بھی نقص نہ ہو“
چالیس سال جاپان نے خوب محنت کی اب دنیا کا سب سے بڑا تاجر ہے۔
میڈان جاپان معیار کی ضمانت ہے اور انگریز کو کہنا پڑا۔

Defeated in world war II, Japan emerged
from the ruins of war as one of the major
economic powers in the world.

ترجمہ:- دوسری جنگ عظیم میں شکست کھایا ہوا جاپان دوبارہ جنگ کے کھنڈروں سے اٹھ کھڑا ہوا اور دنیا

کی عظیم اقتصادی طاقت بن گیا“

اور آج کا مسلمان تاجر یہ چاہتا ہے کہ گھٹیا مال زیادہ منافع پر بکے۔ چنانچہ
Sample کچھ دیکھاتا ہے اور مال کچھ بھینچتا ہے۔ یعنی پیسے عمدہ معیاری چیز کے

وصول کرتا ہے اور دیتا غیر معیاری چیز ہے۔ یہی وجہ ہے پہلے مسلمان تاجروں کو دیکھ کر لوگ دین بدل لیتے تھے اب راستہ بدل لیتے ہیں۔ ایک واقعہ سنتے جائیے گا۔

شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے درمیان Caribbean Sea ہے اس میں تقریباً 20 جزیرے ہیں ان میں سے ایک جزیرہ BAR-BADOS ہے۔ 31 مارچ 1983ء میں جب مولانا وحید الدین خاں صاحب گئے تو فرماتے ہیں

”اس جزیرے میں مسلمان نسبتاً زیادہ ہیں۔ ان کا کپڑے کا کاروبار ہے۔ برج ٹاؤن کی بڑی دکانوں سے کپڑا خریدتے ہیں اور کار پر رکھ کر ان علاقوں میں بیچتے ہیں جو غریب ہیں ادھار لیتے ہیں۔ اس مجبوری کی بنا پر زیادہ دام لگاتے ہیں۔ مقامی زبان میں کپڑا بیچنے والوں کو قلی مان کہتے ہیں میں ایک قلی مان کے ساتھ جا رہا تھا تو چند عیسائیوں نے آواز کسی۔ You are going to cheat the poor.

میں آہ ہی کر سکتا ہوں اور کیا کروں۔ آخر میں مسلمان تاجروں و کلنداروں کو چار اصول بتاتا ہوں۔

کم منافع۔ عمدہ مال۔ پورہ تول۔ میٹھا بول۔
یہ اصول اپنالیں۔

انشاء اللہ مالدار بھی ہو جائیں گے اور عزت دار بھی۔

☆☆☆

اپنا خرچ کم کر دو آمدنی بڑھ جائے گی۔ تھوڑے کو زیادہ سمجھو امیر ہو جاؤ گے۔ خواہشات کم کر دو پرسکون ہو جاؤ گے۔

☆☆☆☆

احساس :-

پستی و بلندی کا تعلق جگہ سے نہیں ہے۔ احساس سے ہے۔ اونچی جگہ پر بیٹھنے والا بلند نہیں ہوتا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جنگلی بکرے پھرتے ہیں۔۔۔۔۔

زمین پر بیٹھنے والا پست نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے اللہ کے پیارے زمین کے نیچے قبروں میں آرام فرما رہے ہیں۔

اچھے خیالات والا بلند ہے خواہ فرش پہ ہو۔ برے خیالات والا پست ہے خواہ عرش پہ ہو۔

☆☆☆

آہ! لوگ اتنا نہیں جانتے سیدھا سا دھارنہ میں بہت فائدہ ہے۔ جہاں راستی اپنا جھنڈا بلند کرتی ہے۔ وہاں اللہ کی مدد پہنچتی ہے۔۔۔۔۔ آپ کو معلوم ہے گناہ بیٹھا کیوں ہوتا ہے؟۔۔۔۔۔ بتاؤں؟۔۔۔۔۔ وہ سیدھا رہتا ہے۔۔۔۔۔ اور پھول نے کچی کنی وجہ سے اپنے پہلو میں کاٹا پایا۔

☆☆☆☆

نکاح:-

بعد از نکاح۔۔۔۔۔ اکثر کیوں لگتی ہے آہ؟ اس کی وجہ۔ علت۔ سبب۔ ریزن۔ کاز۔ کارن کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دو لڑائیوں سے پہلے دونوں آنکھیں بند رکھتا ہے اسے سوائے عورت کے کچھ نظر نہیں آتا۔ بلکہ درخت۔ بڑا درخت کھڑا ہو وہ بھی عورت ہی محسوس ہوتا ہے۔ آنکھیں بند کرے تب بھی ”وہ“ آنکھیں کھولے تب بھی ”وہ“ گلاب کا پھول ہو یا زنگس کا پھول۔ کیچڑ میں اگا ہوا کنول ہو۔ یا باغ میں اگا ہوا ”سرو“ سنبل ہو یا آم کی گٹھلی۔ شہد ہو یا بادام۔۔۔۔۔ برسات ہو یا چاندنی۔ سرویوں کا سورج ہو یا گرمیوں کی چھاؤں۔ اسے ان سب میں ”زنانی“ ہی نظر آتی ہے۔ اور جب وہ آجاتی ہے پھر وہ تو نظر آتی ہے یہ سب کچھ اس میں نظر نہیں آتا۔ پھر کچھ اور اشیاء بھی تلاش کرتا ہے۔ جب وہ کم نظر آتی ہیں تو آہ۔ آہ کرتا ہے۔

اس لئے (BENJAMIN FRANKLIN) نے کہا

Keep your eyes wide open before marriage, half shut afterwards

پروہ ہے۔۔۔۔۔ اسے ہٹادو۔ اور کہہ رہی تھی لڑکی پیٹنٹ شرٹ پہن لے تو کونسی

قیامت آجائے گی؟!!! وہ اتنا نہیں جانتی کہ اسکے بعد بھی کوئی قیامت ہے؟!!!

ایک ”استاد“ صاحب فرما رہے تھے فلاں جگہ تعلیم دینی بند کر دی ہے کیونکہ وہ پیسے کم دیتے ہیں (!!!)۔ علم میں اور گنڈیریوں میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ اور فخر سے بتا رہے تھے کئی کئی روز سکول پڑھانے نہیں جاتا۔ ہیڈ ماسٹر کی جرات ہے کہ بولے!!! یہ سن کر صرف آہ ہی نہیں نکلتی ہے۔ دل و جگر بھی باہر آجاتے ہیں۔

ایک ”واعظ“ کو دیکھا انہوں نے سگریٹ پیا اور سیدھا ممبر پہ چلے گئے اور وعظ فرما رہے تھے۔ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ منہ سے بدبو آتی ہے!!!

پاکستان کی قد آور ”سیدہ“ ایک روز ”نگے سر۔۔۔۔۔ خوب میک اپ کیا ہوا ہے“ تقریر کر رہیں تھیں اور یہ تقریر ٹی وی پہ نشر ہوئی۔ فرما رہی تھیں کہ ہم سب کو حضرت فاطمہؑ کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے!!!

مقام آہ تو یہ ہے کہ ”مقررہ“ نے پروہ تو کیا نہیں اسکے علاوہ حضرت فاطمہؑ کے کس نقش قدم پہ چلنا ہے؟

ایک صاحب بلند آواز سے اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے کہ ہم نے عزم کیا ہے کہ ملک کو خوشحال بنائیں گے اور امن کا گہوارہ بنائیں گے۔۔۔۔۔ حالانکہ وہ خود ہیروئن بیچتے ہیں اور کئی قتل کروا چکے ہیں!!!

لیکن میں پھر بھی ان سے پیار کرتا ہوں کیونکہ یہ تمام بری عادات قابل علاج ہیں۔ ان لوگوں کا ضمیر ان کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ لیکن ضمیر ایک کمزور حج ہے۔ جسکے فیصلے لوگ کم سنتے ہیں یا سنتے ہیں تو توجہ نہیں دیتے۔ یا اللہ! ضمیر کو عشق رسول ﷺ سے مضبوط کروے۔ (آمین)

کرٹن :-

پردہ ----- حجاب ----- گھروں میں پردے پڑے ہوتے ہیں۔
 کھڑکیوں پر۔ دروازوں پر۔ کچھ پردے پڑے تو ہوتے ہیں نظر نہیں آتے۔۔۔۔۔
 آنکھوں پہ پردہ۔ عقل پہ پردہ۔ العلم حجاب اکبر۔ ”علم بڑا پردہ ہے“ دولت کا
 پردہ بھی ہے۔۔۔۔۔ یہ امیر لوگوں کی آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے۔ صاحب ثروت بہت کم
 صاحب بصیرت ہوتے ہیں۔ اکثر اندھے ہوتے ہیں اگر اندھے نہ ہوں تو انہیں یتیموں
 کے خالی جسم غریبوں کے خالی پیٹ اور تنگے پاؤں نظر نہ آئیں۔

ایک فیکٹری والا رو رہا تھا کہ اس سال دو کروڑ سوٹ بنانے ہیں کوئی منڈی نہیں
 مل رہی جدھر انکو بیچوں۔ وہ مال پڑا پڑا اولڈ ہو رہا تھا۔ اور اسی فیکٹری کے ایک مزدور کا یہ
 حال تھا کہ اسکے دو بچوں کے پاس سردی سے بچنے کے لئے کپڑے نہ تھے وہ بیمار ہو گئے۔
 آہ۔۔۔۔۔ لاہور کے ایک مشہور ہوٹل کا مالک اپنے بیجر سے کہہ رہا تھا ”
 آج ویگن منگوا کر وہ کھانا جو لوگ بچا جاتے ہیں دور پہ کھنکوا دینا۔ شام کو ویگن آئی بہت سی
 روٹیاں۔ بوٹیاں۔ چاول۔ فرنی وغیرہ جو خراب نہ تھے۔ لیکن پھر بھی پھینکے جا رہے
 تھے۔ وہ ویگن جہاں پہ سب پھینکنے گئی۔۔۔۔۔ اسکے قریب ہی غریبوں کی آبادی تھی
 ان گھروں میں روٹی کا ایک ٹکڑا تک نہ تھا۔ آہ۔۔۔۔۔ آہ!!

ایک آدمی حکیم صاحب سے ہاضمے کی گولی مانگ رہا تھا کیونکہ وہ آج زیادہ کھا گیا تھا
 اور پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں باہر نکلا تو ایک غریب درد سے کرا رہا تھا اسکے پیٹ
 میں بھوک کی وجہ سے درد تھا۔۔۔۔۔ پہلا آدمی اگر اسے کچھ کھانا دے دیتا تو دونوں کی
 درد ٹھیک ہو جاتی۔۔۔۔۔!!

لیکن آہ۔۔۔۔۔ آہ کے سوا کیا؟ چلو آؤ دعا کریں۔ ہاتھ اٹھا کر نہیں۔۔۔۔۔
 آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر۔۔۔۔۔ یا اللہ! امیروں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا اور

ہیں۔ یہ ایکسپورٹ امپورٹ دونوں کام کرتے ہیں۔۔۔۔۔ لوگ انکے پاس آتے
ہیں یا انہیں بلاتے ہیں۔ پھر یہ اپنی ”عزت“ انہیں دے دیتے ہیں۔ انکی ”عزت“
لے لیتے ہیں۔ پھر بھی عزت دار!!!!

ایک طرف کو گیا وہ چپ چاپ علیحدہ علیحدہ پھر رہا تھا۔۔۔۔۔ حالت بہتر
تھی لیکن ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اسکے چہرے پہ تفکر زیادہ تھا۔ میں نے ”
صاحب“ سے پوچھا اسکا کیا کاروبار ہے؟ وہ بولے یہ ملک کا جاسوس ہے راز بیچتا ہے۔۔۔۔۔
یہ اپنوں کی سنا ہے اور غیروں کو سناتا ہے۔

☆ ☆ ☆

یاس میں آس :-

ڈیل کارنیگی (DALE - CARNEGIE) نے کہا ہے۔

The most important thing in life is not to capitalize on your gains, any fool can do that, the really important thing is to profit from your losses.

ترجمہ :- ”زندگی میں سب سے اہم چیز کامیابی سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے۔ ہر بے وقوف ایسا کر سکتا ہے۔

حقیقی معنوں میں اہم چیز یہ ہے کہ تم نقصانات سے (بھی) فائدہ اٹھاؤ“

اسلام میں ناامیدی گناہ ہے۔ یاس ہی کے آس پاس۔۔۔۔۔ کہیں آس ہوتی ہے نراشا میں ہی آشا ہوتی ہے۔۔۔۔۔ ناامیدی میں ہی امید بھی ہوتی ہے۔۔۔۔۔ اگر آپ سے سورج کی روشنی چھن گئی ہے تو شور مچانے اور اوویلا کرنے میں وقت کیوں صرف کرتے ہو چاندنی سے محفل سجالو۔۔۔ آپکے پاس گولی نہیں ہے تو بولی (کردار و گفتار) سے اگلے کو رام کر لیجئے۔ تلاش کرنا تو آپ کا کام ہے۔۔۔۔۔ کامیابی کے امکانات ختم نہیں ہوتے۔۔۔۔۔ میں نے خود کھنڈروں پر شہر آباد ہوتے دیکھے ہیں۔

ہیروشیما ناگاساگی کو دیکھ لیجئے۔۔۔۔۔ اختتام میں ہی آغاز پوشیدہ ہوتا ہے۔۔۔۔۔ بربادی میں ہی آبادی پوشیدہ ہے۔

آجکل مسلمان روئے زمین پر پس رہے ہیں۔ تمام سیسہ گولیاں بنا بنا کر انکے سینوں میں اتارا جا رہا ہے۔ انگریز غالب مسلمان مغلوب۔۔۔۔۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالب قوم عیش و عشرت میں ضرور پڑ جاتی ہے ان میں سہولت پسندی کا جذبہ آجاتا ہے۔

آپ یوں کریں اسلام کی پر امن اور پر کشش تبلیغ اور عمدہ کردار سے مسلح ہو کر انکے دلوں میں گھس جائیں۔ آرنلڈ ٹائن بی اپنی مشہور کتاب

A Study of History

کی جلد چہارم صفحہ 659 پہ لکھتے ہیں۔

The rise of a civilization was not the result of such factors as superior racial qualities or geographical environment but rather as a people's response to challenge in a situation of special difficulty that rouses them to make an unprecedented effort. Difficult rather than easy one.

ابھی بھی وقت ہے۔۔۔۔۔ آئیے اک راہ متعین کریں۔۔۔۔۔ یہ
ملک جنت بن جائے یعنی کچھ دکھ نہ ہو۔ واہ ہی واہ ہو۔۔۔۔۔ آہ نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لا تقنطوا من رحمۃ اللہ

اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو

جسکے پاس۔۔۔ یاں ہے اسکا ستیاناس ہے جسکے پاس۔۔۔ آں ہے سب کچھ اسکے
پاس ہے۔

☆☆☆☆

رکاوٹ ترقی کی سیڑھی ہے :-

نادان آدمی کو برباد کرتی ہے لیکن رکاوٹ عقلمند آدمی کیلئے ترقی کی سیڑھی ہے۔۔۔۔۔
آگے بڑھتے ہوئے راہ میں رکاوٹ آجائے تو دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رکاوٹ اٹھا
کر پرے پھینک دی جائے۔۔۔۔۔ جیسے پودا زمین پہ بھاڑ کر نکل آتا ہے۔۔۔۔۔ دوسرا
یقہ یہ ہے کہ اسے ہٹانے میں وقت صرف نہ کیا جائے بلکہ راستہ تبدیل کر لیا جائے۔۔۔۔۔
جیسے پانی کی اگر دھارا آرہی ہو آپ رکاوٹ کھڑی کر دیں تو وہ رکے گا نہیں بلکہ اور رخ کی

طرف اپنا سفر شروع کر دے گا۔ بلکہ بعض اوقات یہ رکاوٹ اسے سفر کے لئے دورا سے عطا کر دیتی ہے۔۔۔۔۔ آپ کو گورنمنٹ اگر سڑک کی طرف مکان بڑھانے نہیں دیتی تو آپ آسمان کی طرف بلند کرنا شروع کر دیں۔ ایک فیلڈ میں آپ ناکام ہو گئے ہیں تو دوسری فیلڈ میں اپنی صلاحیتوں کو آزما لیجئے۔ آپ امریکہ کے سولہویں صدر ابراہام لنکن کو لیجئے


This man had failed in business in 1831. He was defeated in politics in 1832. He ran for the senate, and second time was elected president of the United States in 1860.

اسے 1831ء میں تجارت میں ناکامی ہوئی تو سیاست کا رخ کیا اور آخر کار کامیاب ہو گیا۔ جاپان کو دوسری جنگ عظیم میں شکست ہوئی جنرل ڈگلس لیک آر تھر کی مرضی کے مطابق جاپان کا نیا دستور بنایا گیا۔ 3 نومبر 1946ء کو اسمبلی میں منظور کر لیا گیا۔ دستور کی دفعہ 9 کے تحت جاپانی قوم سے وعدہ کروایا گیا۔ کہ

Land, Sea and air forces, As well as other war potential, will never be maintained

ترجمہ :- ”وہ کبھی بھی زمینی، بری یا ہوائی فوج نہ رکھے گی اور نہ کسی قسم کی جنگی تیاری کرے گی۔“ مگر جاپانی قوم نے واویلا نہیں کیا۔ نہ جلوس نکالے جب حکومت و سیاست کی راہ میں رکاوٹ دیکھی تو صنعت کی طرف رخ کیا اور اقتصادی سپر پاور بن گیا۔

اے نبی ﷺ کے بیٹو! آپ کے لئے بہت سے راستے ہیں ہمت نہ ہاریے۔ یہ نہیں تو دوسرا راستہ سہی۔ لیکن یہ دیکھ لینا ہو صحیح۔۔۔۔۔




کوئی نہ کوئی چھین لے گا مگر موت کی پناہ میں آیا ہوا آدمی اتنا محفوظ ہو جاتا ہے کہ کوئی اس سے یہ پناہ چھین نہیں سکتا۔

جو موت سے پیار کرتے ہیں انہیں زندگیاں ملتی ہیں آج ہم زندگی سے پیار کرتے ہیں ہم کو ہر طرف سے موت مل رہی ہے۔ زندگی موت کا سایہ ہے۔ زندگی کے بعد موت ہوتی ہے لیکن موت کے بعد ایک طویل زندگی تو گویا موت کے بعد ہی زندگی ملتی ہے۔




جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کچھ نہیں جانتے تو سمجھ لیجئے علم آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور جب آپ سمجھ لیں کہ آپ کچھ نہیں ہیں تو اس وقت آپ عالم بن چکے ہیں۔



امیر بڑے غریب ہوتے ہیں:-

یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں۔۔۔۔ بڑے امیر ہوتے ہیں۔ انکے پاس خلوص کا اکاؤنٹ پیار کی Amount بہت زیادہ اور پھر بے دریغ خرچ بھی کرتے ہیں۔ انکے پاس وفا کے گودام ہوتے ہیں محنت کا بے حساب سٹاک ہوتا ہے۔ اور یہ جو امیر ہوتے ہیں نا۔۔۔ بڑے غریب ہوتے ہیں انکے پاس سکون کے سکے بہت کم ہوتے ہیں۔ پیار کی کرنسی نہ ہونے کے برابر بمشکل بیوی کا کام چلتا ہے۔ ہاں مفاد کی جعلی کرنسی انکے پاس بہت ہوتی ہے۔ اور اسے ہی چلاتے رہتے ہیں۔ اندھیرے میں رکھ کر۔ کھوٹا سکہ کب تک چلتا ہے؟ خلوص کا اکاؤنٹ تو ہوتا ہی نہیں۔ آہ! امیر تیری بھی کیا زندگی ہے تجھے بھوک نہیں لگتی اور غریب کے پاس Bread نہیں۔ تجھے نیند نہیں آتی اور غریب کے پاس Bed نہیں۔



موت زندگی دیتی ہے :-

آدمی زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہے موت زندگی سے طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدم یعنی موت کو پہلے پیدا کیا اور زندگی کو بعد میں۔۔۔۔۔ زندگی قید ہے۔ موت آزادی ہے۔ زندگی میں ان سے ملنا پڑتا ہے جن سے ملنے کو جی نہیں چاہتا۔ وہ کچھ کھانا پڑتا ہے۔ جو ہمیں پسند نہیں۔ ان مقامات پر جانا پڑتا ہے۔ جہاں ایک منٹ رکنا عذاب لگتا ہے۔۔۔۔۔ مگر قربان جائیں موت پہ یہ واحد شے ہے جو ہمیں قید سے زندگی کی قید سے۔۔۔۔۔ غموں کی قید سے۔۔۔۔۔ خواہشات کی قید سے۔۔۔۔۔ رہائی دلاتی ہے۔

آہ! انسان تو پھر بھی موت سے ڈرتا ہے اور زندگی سے پیار کرتا ہے اور تو نے زندگی کو بچانے کے لئے ڈاکٹر، وکیل، محافظ، پولیس اور فوج کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں یہ بھی تو دیکھ چکا ہے کہ موت ان سب کی موجودگی میں تمہیں لے جاتی ہے اور وہ سب دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔

میں نے کئی بار ڈاکٹرز کو Operation Theatre سے نکلنے ہوئے مریض کے لواحقین کو Sorry کہتے ہوئے سنا ہے۔

ایک وکیل کو دیکھا وہ عدالت سے باہر نکلا تو سر جھکا ہوا تھا کیونکہ اسکے دلائل قاتل کو پھانسی سے نہ بچاسکے۔ مرتضیٰ بھٹو قتل ہو گیا حالانکہ محافظ ساتھ تھے!!! کراچی کے اندر پولیس اور فوج دونوں مل کر عوام کو دہشت گردوں کی دہشت گردی سے نہ بچاسکے۔!!! آہ انسان تو پھر بھی زندگی سے پیار کرتا ہے۔!!! حالانکہ قرآن مجید کے اندر زندوں کو مردہ کہا گیا ہے لیکن موت کی آغوش میں چلے جانے والے مسلمان کو مردہ کہنے سے منع کر دیا ہے۔

کوئی آدمی زندگی کی پناہ لینا چاہے وہ تھوڑی دیر کے لئے پناہ دے بھی دے تو

کردیتے ہیں۔ آپ کی آرزو ہوتی ہے کہ ہر شے کا اصلی چہرہ نظر آئے۔ اس لئے ارد گرد۔
 گرد نہیں رہنے دیتے۔ حالانکہ یہ جب زمین کی اوپر والی سطح پر زیادہ مقدار میں ہوتی ہے تو
 فصلیں اگتی ہیں۔ جب بلند ہو کر فضا میں پھیل جاتی ہے تو بخارات بادل بن جاتے ہیں
 روس کے ماہرین موسمیات نے قراقرم کے ریگستانوں میں تحقیقات کے بعد بتایا کہ گرد سے
 بھری ہوئی ہوائیں زمین پر موسم کی سختی کو کنٹرول کرنے کا ایک قدرتی ذریعہ ہیں جب
 گرد بھری ہوائیں چلتی ہیں تو فضا میں ایک غلاف بنا لیتی ہیں جسکی وجہ سے گرمی میں تپش
 میں کمی ہو جاتی ہے۔ 0

دیکھا آپ نے؟ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں لیکن قائدے کتنے ہیں؟ چلو کوئی
 بات نہیں اب ناپسند کرو۔ ایک روز نہادھو کر۔ مئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر اسی گرد کے
 نیچے جاؤ گے بھریہ ناپسند۔ پسند ہوگی۔

گرمی۔ موسم گرما میں ناپسند۔ اور موسم سرما میں پسند۔
 گرم سوٹ موسم گرما میں ناپسند۔ اور موسم سرما میں پسند۔
 یا اللہ! ہماری دعاؤں پہ نہ جا۔ جو ہمارے لیئے بہتر ہے وہ عطا فرما۔

☆☆☆☆

ماں :-

جن بچوں کو ماں کی گود نہیں ملتی وہ لوگوں کے پاؤں میں پلتے ہیں
 جنہیں ماں کی لوریاں نہیں ملتیں وہ لوگوں کی گالیاں سنتے ہیں۔
 ماں تو جنت کا ایک گھنا درخت ہے۔ کڑی دھوپ میں درخت کا
 سیاہ سر پہ نہ ہو تو جسم بھس جلتا ہے اور پاؤں بھی جلتے ہیں۔

BE-BOLD

دشمن کی باتیں سن کر آہیں نہ بھرننا شروع ہو جا یا کرو۔

بلکہ ان سے کہو۔ دشمنو! تمہیں کھلی چھٹی ہے۔ برا بھلا کہتے رہو۔ پکھتیاں
 کسو۔۔۔۔۔ شوق سے گالیاں دو۔ لوگوں کو بدظن کرو ہم پہ ظلم و ستم ڈھاؤ پتھر
 مارو حتیٰ کہ پھانسی تک چڑھا دو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا تم ہم سے وہ جوہر نہیں چھین سکتے
 جو اللہ نے عطا کیا ہے اگر آپ قوم کو سنوارنے کا عزم رکھتے ہیں تو پرواز جاری رکھو جو
 شخص آپ سے لڑتا ہے وہ آپ کے اعصاب کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کی استعداد کو تیز
 تر کرتا ہے ہمارا مخالف ہمارا مددگار ہے دشمنوں کی تعداد سے نے گھبراؤ۔۔۔۔۔ کیونکہ
 عقاب جب اڑتا ہے تو مرغلیوں، کبوتروں، چڑیوں، کوؤں کی تعداد سے نہیں گھبراتا۔۔۔۔۔
 شیر جب جنگل میں نکلتا ہے وہ کتوں، بھیرپوں، لوٹریوں اور گدھوں کی تعداد سے نہیں گھبراتا۔
 تم عقاب ہو۔ شیر ہو۔ مت ڈرو۔ عوام اسکے غلام بن جاتے ہیں جو جھکتے نہیں ہے
 Arthur Gordon کو ایک دوست نے لکھا

Be Bold and might forces will come to your
aid.

☆☆☆

کبھی اچھا بھی اچھا نہیں ہوتا:-

انصاف کرنا اچھا ہے بعض اوقات انصاف ظلم ہوتا ہے۔ کچھ سمجھے آپ؟
 نہیں سمجھے؟ چلو میں عرض کرتا ہوں۔ دو دوست چلے۔ انہوں نے آدھے آدھے پیسے
 ڈال کر ایک مٹی کا پیالہ خریدا کہ راستے میں اس میں پانی پینیں گے۔۔۔۔۔ وہ سفر
 کرتے رہے ایک مقام سے دونوں کے راستے الگ الگ ہونا تھے۔ تو ایک بولا پیالہ تقسیم
 کرو۔۔۔۔۔ دوسرا بولا آپ پورا پیالہ لیجائیں یہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ مگر پہلا بصد تھا کہ
 انصاف ہونا چاہیے اور عدل یہ ہے کہ پیالہ دو حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ اب آپ ہی
 بتائیں کون صحیح ہے جو انصاف کا تقاضہ کر رہا ہے یا جو انصاف کی مخالفت کر رہا ہے؟
 یہاں انصاف کرو گے تو ظلم ہوگا یہاں احسان کام دے گا۔

امانت واپس کرنا اچھا کبھی واپس نہ کرنا اچھا۔۔۔ ایک مرتبہ ایک ہندو نے آپ کے پاس اسلحہ امانت رکھا کہ ضرورت پڑی تو لیجاؤں گا۔ ہوا یوں کہ اسی گلی میں مسلم کش فساد ہو گیا وہ ہندو آپ سے اسلحہ لینے آیا کیونکہ مسلمان کو مارنا چاہتا ہے کیا آپ امانت واپس کر دیں گے؟ یقیناً نہیں۔ اگر واپس اسلحہ دیا تو آپ مسلمانوں کے قتل میں شریک ہونگے۔

☆☆☆☆

غلطی میں درستگی ہے:-

انبیاء کو چھوڑ کر باقی ہر ایک ابتداء میں غلطی کرے گا پھر صحیح کرے گا کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے تم کو تمھاری ماؤں کے پیٹوں سے جاہل نکالا۔۔۔ ابتداء میں لکھانی گندی ہوگی اور الفاظ غلط نکلیں گے پھر یہی غلط آہستہ آہستہ صحیح ہوتا جائے گا۔ ہر کام کی ابتداء میں غلطی کا احتمال ضرور رہتا ہے۔ آپ آغاز کر دیں کیونکہ غلطی ہی میں سے درستگی نکلے گی ہر آدمی کا یہ سوچنا،، کہیں غلط نہ ہو جائے،، یہ اندیشہ رکاوٹ بن جاتا ہے اور آدمی ناکام ہو جاتا ہے اس رکاوٹ کو عبور کیجئے اور،، صحیح تک پہنچ جائیے۔

A failure is a man who has blundered but is not able to cash the experience.

ترجمہ: ”غلطی سے سبق سیکھنے والا غلطی کرنے والا نہیں ہے“

☆☆☆

لڑائی:-

ہر جاندار لڑتا ہے۔ انسان بھی لڑتا ہے۔ اس کی وجہ تعین ”ز“ ہیں زن۔ زر۔ زمین۔ زور ہو پھر جیتتا ہے۔ ورنہ زندگی پہ زور پڑ جاتی ہے۔ انسان کو لڑانے اور لڑنے میں شاید مزا آتا ہے۔ پہلے خود لڑتا تھا۔ پھر سیانا ہو گیا اور لڑانے لگ گیا۔ ایک دور ہتھیار انسان اور درندوں کو لڑایا جاتا تھا۔ پھر ریسلنگ وجود میں آئی۔ لوگوں میں

لڑائی دیکھنے کا بہت شوق ہے۔۔۔ بیڑوں کی لڑائی۔۔۔ مرغوں کی لڑائی۔۔۔ ریچھ اور کتے کی لڑائی۔۔۔ ہمسائیوں کی لڑائی۔۔۔ لڑائی کی سب سے بڑی قسم کا نام جنگ ہے۔۔۔ یہ اپنوں سے بھی ہوتی ہے اور غیروں سے بھی یہ پہلے دماغ میں جنم لیتی ہے پھر عملی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔۔۔ لڑائی سے بچنے کا پہلا حل یہ ہے کہ اسے دماغ میں ہی ختم کر دیا جائے۔۔۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زیادتی کرنے والے سے درگزر کیا جائے۔۔۔ C-F-DOLE کہتا ہے:-

Goodwill is the mightiest force in the Universe.

ترجمہ:- ”نرمی کا برتاؤ کائنات میں سب سے بڑی طاقت ہے“

اور چارلس ڈکنس کا قول ہے۔۔۔

Silence is the unbreakable repartee.

”خاموشی ناقابل برداشت جواب ہے“

اور ہمیں اس طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ویرانے میں نکل جائیں اور دشمن کا تصور

رکھ کر اسے خوب کھری کھری سنائیں۔۔۔ من ہلکا ہو جائے گا۔۔۔

☆☆☆

مگر:-

کائنات سمٹ جائے تو عورت۔۔۔۔۔ عورت بکھر جائے تو کائنات

رات میں تاریکی ہے مگر زلف زن سے زیادہ نہیں ہے

ستاروں میں روشنی ہے مگر عورت کی آنکھوں سے زیادہ نہیں ہے

موتی میں چمک ہے مگر عورت کے دانتوں سے زیادہ نہیں

پھولوں میں شگفتگی ہے مگر عورت کے رخسار سے زیادہ نہیں

باغ کی فضا میں مہک ہے مگر عورت کی سانسوں سے زیادہ نہیں

شبنم میں پاکیزگی ہے مگر عورت سے زیادہ نہیں
 آبلینہ نازک ہوتا ہے مگر عورت کے دل سے زیادہ نہیں
 کلی خوبصورت ہوتی ہے مگر عورت کے ہونٹوں سے زیادہ نہیں
 کوئل کی کوک میں سحر ہے مگر عورت کی آواز سے زیادہ نہیں
 برہات برستی ہے مگر عورت کے آنسوؤں سے زیادہ نہیں
 لہریں شوریدہ سر ہوئی مگر عورت کے جذبات سے زیادہ نہیں
 مقناطیس میں کشش ہے مگر عورت سے زیادہ نہیں

سلسلہ طویل ہو جائے گا عورت میں ایک کائنات ہے۔ عورت (ع+و+ر+ت)

ع سے عبادت ماں کو دیکھو
 و سے وفاداری بیوی کو دیکھو
 ر سے رحمت بیٹی کو دیکھو
 ت سے تابع بہن کو دیکھو

مگر آہ! عورت تو پانچوں کیوں ہے؟ لگتا ہے تو راستہ کھو گئی ہے۔ تیرا راستہ وہ ہے جو حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہؓ، حضرت مریم، حضرت رابعہ کا راستہ تھا۔

☆☆☆

ٹیلی فون لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ ٹیلی معنی دور۔۔۔۔۔ فون معنی آواز۔
 ٹیلی فون بغیر اجازت لوگوں کے گھر داخل ہونے کا غیر قانونی ”جائز“ راستہ
 دس سینکڑ میں انگلے کے کان تک پہنچنے کا آسان ذریعہ۔

☆☆☆☆

دلہن:-

بعض ڈولہوں میں میت جا رہی ہوتی ہے۔ اور کچھ مسہریاں مقبرہ ہوتی ہیں شہنائیوں کی آوازیں آہ و فغاں سے مشابہ ہوتی ہیں۔ نام شادی (یعنی خوشی) رکھا ہے۔ اور سراسر آہوں کا اجتماع۔ شادی کے روز۔ ماں کی آہیں۔ بھائیوں اور بہنوں کی آہیں خود دلہن بھی اونچی اونچی آوازیں رو رہی ہوتی ہے۔ وہ بھی کوئی شادی ہے۔ جسم کسی اور کے پاس اور روح کسی اور کے پاس۔ ایسی شادی کو ایک آدم زادہ قانونی زنا کا نام دے رہا تھا۔

ماچس:-

میں 1996ء اگست کو ایران گیا۔ وہاں میں نے بہت سی اچھی چیزیں بھی دیکھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ عورتیں پردہ کی بہت پابند ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے مزار اقدس پر مردوں سے زیادہ عورتوں کو فجر کی نماز پڑھنے کے لئے جوق در جوق جاتے دیکھا۔ وہاں لوکل بسوں میں عورتیں پیچھے بیٹھتی ہیں اور سڑکیں ایسی ہیں ڈرائیور قہوہ پیتا جاتا ہے۔ سالن کا ذائقہ اور خوشبو عجیب سی ہوتی ہے۔

لیکن ایک بات، وہاں ماچس ایک تحفہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ زاہدان سے پانچ چھ گھنٹے کے فاصلے پر ایران شہر ہے۔ وہاں میں اپنے دوست علیشان کے پاس گیا تو ایک صاحب نے بڑی نکتہ کی بات بتائی آپ کی نذر کرتا ہوں۔ اس نے کہا۔

A match stick has a head but it does not have a brain. Therefore, whenever there is a friction it flares up immediately. Let us learn from this humble match-stick; you and we have heads as well as brains therefore, let us not react on impulse.

therefore, let us not react on impulse

ترجمہ: ”ماچس کی تیلی کا ایک سر

ہوتا ہے۔ مگر اس میں دماغ نہیں ہوتا۔ اس لئے جب بھی کوئی رگڑ ہوتی ہے وہ فوراً جل اٹھتی ہے۔ آئیے

ہم ماچس کی تیلی سے سبق لیں ہم اور آپ سر رکھتے ہیں اسی کے ساتھ دماغ بھی اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم

اشغال پر بھڑک نہ اٹھیں۔“

واقعی صحیح ہے اگر ہم بھی چھوٹی سی بات پہ آگ بگولہ ہو جائیں ہم میں اور

ماچس کی تیلی میں کیا فرق رہ جائے گا۔

☆☆☆

صلہ :-

آہ کیا صلہ دیا!!!!!! یہ ایک مفکر کی آہ ہے۔ جس نے راتیں آنکھوں میں کاٹیں۔

آسمان فکر کے چمکتے ہوئے تارے لوگوں کو مفت میں عطا کر دیئے۔ سوچ کی براق کو

خون جگر پلا کر طاقتور رکھاتا کہ وہ اڑتا رہے۔ مگر لوگوں نے بدلے میں کیا دیا۔۔۔۔۔ طعنے۔۔۔۔۔

دکھ۔۔۔۔۔ بدنامی۔۔۔۔۔ تضحیک!!!!!! واہ۔ خوب صلہ دیا۔۔۔۔۔ آپ نے اسے تنگ

کیا۔ اب وہ جنت کا مستحق ہے کیونکہ دنیا میں مصائب میں رہا ہے۔

☆☆☆

قینچی اور سوئی :-

مقولہ ہے القرض مقرض المرحبہ قرض محبت کی قینچی ہے۔

قینچی کاٹتی ہے۔ سوئی سیتی ہے۔ قرض قینچی ہے تو تحفہ سوئی ہے۔ اگر قرض

دو کو دور کرتا ہے تو تحفہ دو کو کلوز کرتا ہے۔ آپ اگر طاقت رکھتے ہیں تو دوست کو قرض

بطور تحفہ دے دیں ورنہ نہ دیں۔ قرض دینے سے دوست بھی جاتا ہے اور رقم بھی جاتی

ہے۔ جو دوست آپ سے صرف اس وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ نے قرض نہ دیا

ایسے دوست سے ہٹنا ہی بہتر ہے۔ قرض قینچی ہے تحفہ سوئی کا کام دیتی ہے۔ قینچی گھر

میں ایک بھی ہو تو تمام کپڑے کاٹنے کے لئے کافی ہے۔ اس لئے گھر کے اندر قینچیاں کم
 رسوئیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ بھی قرض کم دیں تحفے زیادہ دیں۔
 ایک اور نکتہ سناتا چلوں۔ زبان واحد شے ہے جو قینچی بھی ہے اور سوئی بھی۔
 معنی آپ کی زبان رشتے جوڑ بھی سکتی ہے اور کاٹ بھی سکتی ہے۔ قرض قینچی ہے۔ قرض۔
 مرض ہے۔ اور علاج مرض۔ فرض ہے۔

☆☆☆

تقلید:-

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، حالانکہ وہ یہ جملہ بھی کسی
 سے سن کر بول رہے ہیں۔ تقلید تو ہو گئی۔

قبرستان میں انسان نے کوئے کی تقلید کی
 جہاز سے بم گرانے میں ایپیل کی تقلید کی
 جہاز بنانے میں چیل کی تقلید کی

وائرلس میں جھینگر کی تقلید کی (وہ لمبی لمبی مونچھوں سے پیام رسانی کا کام لیتا

ہے)

ریڈار بنانے میں چمگاڈ کو استاد مانا۔

کیا تمام انسان ایک جیسی ہی علمی حیثیت رکھتے ہیں؟ اس کا جواب پوری دنیا میں ”
 میں“ ہے۔ تو کم علم والا زیادہ علم والے کی فطری طور پر تقلید کرے گا۔ اگر تقلید حرام
 ہے تو پھر گزارش ہے کہ تمام لوگ پھر سے بخاری شریف جمع کریں جیسے امام بخاری
 نے کی تھی۔ کیونکہ اگر اسی کو مان لیا تو تقلید ہوگی۔

اللہ خود فرماتا ہے فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ علم والوں سے
 چھو اگر جاہل ہو جب پوچھو گے تو تقلید ہو جائے گی۔

☆☆☆☆

عورت :-

”عورت مخلوق کا تاج ہے“ ----- ”کمزور برتن ہے“ اسے

طاقتور محبت کرتی ہے۔ یہ جب پیدا ہوتی ہے اس کی نظر ماں، باپ اور بھائی پہ پڑتی ہے۔ وہ باپ اور ماں کی طرف دیکھتی ہے اور محسوس کرتی ہے کہ اسکے حے کا پیار بھی بھائی کو مل رہا ہے۔ وہ محبت کا تقاضا کرنے کی بجائے گھروالوں پہ محبت لٹانے لگ جاتی ہے۔ جوان ہوتی ہے تو ماں باپ اسکی شادی کا سوچتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ سنے سجانے لگ جاتی ہے کہ چلو میرا خاوند ہی مجھ سے بہت پیار کرے گا۔ مگر وہ بھی چند ماہ بعد بدل جاتا ہے۔ اسکی جوانی آہ اور واہ کے درمیان گزر جاتی ہے۔ پھر بچے کی پیدائش پہ خوش ہوتی ہے اور اسے جی بھر کے پیار کرتی ہے۔ کہ یہ مجھے پیار کرے گا مگر جب وہ جواں ہوتا ہے ماں کو بھول جاتا ہے۔ وہ بیوی کی زیادہ اور ماں کی کم سمٹتا ہے۔۔۔ عمر کے اس حے میں بھی وہ آہیں بھرتی ہے۔ عورت سوچتی ہے بھائی سے محبت نہ ملی خاوند نے نہ دی۔ بیٹے نے محبت نہ دی چلو پوتا ہی مجھ سے پیار کرے گا مگر پوتے کے پاس بھی داوی کے لئے کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ اب وہ چارپائی کی ہو کر رہ جاتی ہے۔ آہیں بھرتی ہے۔ اے اللہ میری شہہ رگ سے قریب اور نظروں سے دور میری مدد کر۔ پھر قوتیں جواب دے جاتی ہیں اور آہیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اب اسکی نظر میں کسی کی محبت کی آس نہیں۔ کیونکہ سب مفاد پرست ہیں۔ اس کا جسم لرزتا ہے ہلکی سی آہ نکلتی ہے اور محبت کے خالق کے دامن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چلی جاتی ہے۔

☆☆☆

منزل :-

آپ کا دفتر گھر سے بیس میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ چار پانی پہ بیٹھے رہیں باہر نہ نکلیں تو کیا دفتر پہنچ جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ آہ! ہمارا حال یہ ہے کہ منزل پانا چاہتے ہیں۔ لیکن قدم نہیں اٹھاتے صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں (دعا کیلئے) سنو دوستو! پہلے دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ اور پھر قدم بھی اٹھاؤ انشاء اللہ منزل آپ کے قدموں میں آجائے گی۔



حقہ :-

آپ نے حقہ دیکھا ہے؟ آج جا کر غور سے دیکھئے گا۔ اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی۔۔۔۔۔ آگ چلم (ٹوپی) میں ہوتی ہے۔ پانی ”ھویجا“ میں ہوتا ہے۔ چلم مٹی کی بنی ہوتی ہے۔ ہوا جب آپ کش لگاتے ہیں تو دھوئیں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ حقہ میں چار چیزیں ہیں۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ انسان چار چیزوں سے بنا ہے۔ آگ پانی ہوا مٹی، لیکن حقے میں لکڑی کی دو نڑیاں ہوتی ہیں ایک سیدھی اکڑی ہوتی ہے لوگ اسکے منہ میں آگ رکھتے ہیں ایک جھکی ہوتی ہے اسے لوگ بار بار چومتے ہیں۔ حقے میں چار چیزیں آگ پانی ہوا مٹی۔ بندے میں چار چیزیں آگ ہوا مٹی حقے میں ایک نڑی ہوتی ہے۔ جو اکڑی ہوتی ہے اسکے منہ پر آگ رکھتے ہیں اور جھکی کو سب پیار کرتے ہیں اسی طرح جو انسان اکڑ گیا وہ دوزخ میں اور جو جھک جائے اسے رب بلند کرتا ہے پیار کرتا ہے۔


☆☆☆☆

نام بدلا حقیقت وہی :-

اب آپ پانی ہی کو لیجئے۔ آسمان کی طرف اٹھے تو بھاپ۔ آسمان سے نیچے آئے تو بارش۔

جر کر جے تو ”برف“	جم کر گرے تو ”اولے“
پتی سے نکلے تو ”عرق“	پتی پر ہو تو شبنم
تھنوں سے نکلے تو ”دودھ“	پھلوں میں سے نکلے تو ”جوس“
پھاڑ کے اندر سے نکلے تو ”چشمہ“	پھاڑ سے گرے تو ”آبشار“
بہہ پڑے تو ندی نالہ اور نیل	جمع ہو جائے تو ”جھیل“
مسام سے نکلے تو ”پسینہ“	رگوں میں دوڑے تو ”خون“

آنکھوں سے نکلے تو آنسو
اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے نکلے تو زم زم
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے نکلے تو آب کوثر۔



THINKING

سوچ کی دو اقسام ہیں۔

1- Convergent thinking - ایک ہی سوچ رکھنا۔

2- Divergent thinking - ایک سوچ سے دوسری سوچ نکالنا

آپ بڑے پانی میں ایک بھاری پتھر پھینکیں تو لہریں بنتی ہیں۔ اسی طرح
جب کسی چیز سے سامنا ہوتا ہے وہ دل و دماغ پہ اثر کرتی ہے۔ تو دماغ کے اندر

لہریں بلکہ طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ اس طوفان کو سوچ کہتے ہیں۔ جس قدر چوٹ زیادہ
ہوگی لہریں اتنی ہی زیادہ ہوں گی۔ انہی میں ایک لہر آپ کے مسئلہ کا حل ہے۔ اور نارمل
آدمی پریشانی کے اندر ایک سوچ سے دوسری سوچ نکالتا ہے جو اسکے لئے فائدہ مند ہوتی ہے

۔ اسے Divergent thinking کہتے ہیں


ایک انگریزی مقولہ ہے۔

Starve the problems feed the opportunities.

”مسائل کو بھوکا رکھو اور مواقع کو کھلاؤ“ یعنی جب کوئی پریشانی آئے تو

پریشان نہ ہو جاؤ بلکہ وہ وقت اس کا حل ڈھونڈنے میں لگاؤ۔ اور موقع تلاش کرو۔ جب وہ

پریشانی آسانی میں تبدیل ہو جائے۔



جتنا انسان پرانا ہے یہ اتنا ہی پرانا ہے۔ لیکن پھر بھی جوان ہے۔ یوسہ حضرت حوا نے جنت میں سیکھا تھا۔ آپ غور سے دیکھیں تو معلوم ہوا کہ کوہسار آسمان کو چوم رہے ہیں۔ کرنیں زمین کو چومتی ہیں۔ چاندنی سمندر کی لہروں کو چومتی ہے۔ تبھی تو وہ چھوتی ہیں۔ باد صبا لکیوں کو چومتی ہے وہ کھل اٹھتی ہیں۔ قلم کاغذ کو چومتا ہے۔ میں نے ہواؤں کو دیکھا ہے کوئی درخت نہیں چھوڑا جسے چومانہ ہو۔ اور اکثر آپس میں بھی بغلگیر ہو جاتی ہے۔

یوسے کی کئی اقسام ہیں احساس بدلتا ہے۔ یوسے کی وجہ سے ہوتی محبت ہی ہے۔ ایران اور سعودی عرب میں میں نے دیکھا کہ جب دو دوست ملتے ہیں تو ایک دوسرے کا گال چومتے ہیں۔ یورپ میں کسی کا احترام کریں تو ماتھا چومتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں موؤب بچے ماں کے پاؤں چومتے ہیں۔ بیٹی ہو تو سر چومتے ہیں۔ یوسہ محبت کا قاصد ہوتا ہے۔ اس کا تعلق محبت سے ہوتا ہے۔ عبادت سے نہیں۔

شہوت کے یوسے کیلئے مندرجہ ذیل سامان درکار ہوتا ہے۔

Four sweet lips two pure souls, and one undying affection. These are love's pretty ingredients for a kiss.

shelley کی بات بھی سنتے جائیے

Soul meets soul on lover's lips.

روح روح سے ملاقات کرتی ہے۔ جب چار ہونٹ ملتے ہیں
آہ! وہ لکھے جب میرے ہونٹ کعبہ کے خلاف کو چوم رہے تھے۔ حجر اسود کو چوم

رہے تھے۔

☆☆☆☆

حرین اور آہیں:-

میں 26 نومبر 1998ء کو مکتہ المکرمہ پہنچا کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ لوگ طواف کرتے ہوئے رو رہے ہیں کوئی کعبۃ اللہ کے دروازے کی وہلیز کو پکڑ کر رو رہا ہے اور کوئی میزاب رحمت کے نیچے کھڑا غلاف کعبہ سے چمٹ کر آہ وزاری کر رہا ہے۔

یکم دسمبر کو میں تاجدار مدینہ کے درپر پہنچا تو وہاں بھی مجھے یہ آہ وزاری نظر آئی۔ لیکن دبی دبی۔ ان آہوں کے کیا کہنے۔ جو دل کی گہرائیوں سے نکلیں اور مدینہ کی فضا میں گم ہو جائیں۔ اللہ ان آہوں کو سلامت رکھے۔

☆☆☆☆

جہاد:-

افسوس لوگ فلسفہ جہاد کو نہیں سمجھ پائے۔ اسلام جسم سے بڑھ کر جان کا محافظ ہے۔ اور ڈاکٹرز جان بچانے کے لئے خراب اعضاء کاٹ دیا کرتے ہیں۔ خواہ رشتہ دار جتنا بھی روئیں۔ کیا آپ سرجن کو ظالم و سفاک کہیں گے؟ بلکہ آپ اسے پیسے دیتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اسلام انسانیت کی روح کو بچاتا ہے۔ اور معاشرے کے فاسد اعضاء کو کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کے فلسفہ جہاد پر وہ اعتراض کرے جو جاہل یا کاہل ہے۔ یا جس نے پیدائش سے موت تک کسی شے کو نہیں مارا حتیٰ کہ جراثیم کو بھی نہیں۔ جنگ میں اور جہاد میں فرق ہے۔

John Abbott کہتا ہے۔ War is the science of

destruction

لیکن

جہاد۔ بچاؤ کا نام ہے۔ دفاع ہے۔ قوم کا۔ ملک کا۔ عزت کا

جنگ۔ غنیمت کیلئے ہوتی ہے۔

جہاد۔ شریعت کیلئے

جنگ۔ ظالم کا خنجر ہے۔

جہاد۔ جراح کا نشر

جنگ۔ اولہوسی

جہاد۔ احلاص کامل

جنگ۔ حکم شاہی ہے

جہاد۔ حکم الہی ہے

جنگ بقول ٹکسیٹر سن آف ہیل ... (Son of Hell)

جہاد۔ جنت کا بلاوا ہے۔

جنگ۔ خود کیلئے ہوتی ہے۔

جہاد۔ خدا کیلئے ہوتا ہے۔

جنگ۔ کفر کرتا ہے کہ برباد ہے۔

جہاد۔ بعد میں اسلام کرتا ہے کہ یاد ہے۔

جنگ۔ ہو تو آہوں کا شورا اٹھتا ہے۔

جہاد۔ کے بعد واہ کا شورا اٹھتا ہے۔

فخر

فخر سے فٹنہ اور تو خیر بچتا ہے اور خیر گدھے کو کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تکبر و غرور کرنے والا گدھا ہوتا ہے۔ جو اتنا نہیں جانتا کہ جس پر وہ اکڑ رہا ہے وہ عاریتاً ہے کسی کی عطا کردہ ہے۔ ایک صاحب بڑے فخر سے بتا رہے تھے یہ جو بی میرے دادا

کی ہے۔ میرے ابو بہت بڑے افسر ہیں۔ میرا بھائی کیپٹن ہے۔ ہم سید ہیں۔ میں نے کہا جناب یہ تو سب ٹھیک ہ ان سب میں آپ کا اپنا کیا ہے؟ آپ کسی اپنی خوبی کا بھی تذکرہ کریں۔

کچھ لوگ صرف اپنی ذات کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں اور کردار ایک کمی سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ حضرت سے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں۔

”خیر و برتری خاندان و نسب کی اجارہ داری نہیں۔ بلکہ جو خدا کی مرضی پر عمل کرتا ہے وہ میرا بھائی۔ میری بہن ہے۔ اور میری ماں ہے“

پلوتارک نے کہا

”وہ شخص ستاروں پہ کمندر کیسے ڈال سکتا ہے جو اپنے شجرہ نسب کے دام میں پھنسا ہوا ہے“

ابراہم لکن کہتا ہے ”مجھے یہ خبر نہیں ہے کہ میرا کون تھا مجھے اگر تشویش ہے تو صرف یہ ہے کہ اسکے پوتے کو کیا ہونا چاہیے۔“

ماں کے پیٹ سے سب ایک جیسے نکلتے ہیں پھر جو اپنے اخلاق و عادات دل و دماغ کو اچھا کر لیتا ہے وہ شریف و نجیب بن جاتا ہے۔ تم سب کا باپ آدم ہے آدم مٹی سے بنے تھے۔ مت اتر او کہ تم بڑے آدمی کے بیٹے ہو۔ اصلی بڑائی وہی ہی جو تمہاری اپنی ذات میں ہو۔ بڑے اپنی بڑائی ساتھ ہی لیجاتے ہیں جس نے اچھے کام کئے وہ بلند جو برے کام کرے وہ گند۔

☆☆☆☆

کردار:-

آپ اپنے اچھے کردار کی بدولت بڑے بڑے جاہوروں پہ فتح پاسکتے ہیں۔ تلواروں کو کند کر سکتے ہیں لوہے کو موم کر سکتے ہیں۔ پتھر کو قوم کر سکتے ہیں۔ کردار طاقت کا کام دیتا ہے۔

کردار ختم طاقت ختم۔ طاقت ختم بندہ ختم۔ اس لئے Anonymous کہتا ہے۔

When wealth is lost , nothing is lost.

When health is lost, something is lost.

When character is lost, all is lost

اور اعتماد دولت کا کام دیتا ہے اگر اعتماد ہے تو آپ لاکھوں کا مال بنا پیسے دلا سکتے ہیں اس لئے۔

Mac Donald کہتا ہے۔

To be trusted is a greater compliment than to be loved

نقل کامیابی کی ضمانت ہے :-

تمام یونیورسٹیز کا قانون ہے کہ جو نقل لگاتا پکڑا جائے اسے فیل کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی یونیورسٹی میں پاس ہی وہ ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل اتارتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ”تحقیق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے نمونہ ہے“

سوال یہ ہے کہ باقی نبی نمونہ کیوں نہیں ہیں؟ مثال سے عرض کرتا ہوں۔ علامہ اقبالؒ سے ایک عیسائی عورت نے کہا آپ مجھ سے شادی کر لیں اور عیسائی ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا عیسائی ہو جاؤں تو تجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ عورت نے پوچھا کیوں؟ آپ نے کہا اگر میں عیسائی بنا تو ہر کام کے لئے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ تو نکاح کے لئے بھی انکی سنت درکار ہوگی۔ انہوں نے تو شادی ہی نہیں کی میں کیسے شادی کروں گا؟ اگر تم نے شادی کرنی ہے تو مسلمان ہو جاؤ کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم نے گیارہ شادیاں کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ وہی چھوڑے گا جو منزل پہ پہنچنا نہیں چاہتا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی خاک نہ بنا سکے سر پہ خاک۔

تمت بالخیر

.....*** اشاکست ***.....

ضیاء القرآن پبلی کیشنز، گنج بخش روڈ، لاہور فون: 7221953

نیوالقمر بک کارپوریشن، گنج بخش روڈ، لاہور فون: 7355359

مکتبہ جمال کرم، دربار مارکیٹ، لاہور فون: 7324948

گیلانی پبلی کیشنز، لاہور فون: 0300-8489101-5270033

ویکم سٹور، نزد قرشی انڈسٹریز، ٹیوشنالیما روڈ، لاہور فون: 7467516

فرید بک سٹال 38 اردو بازار لاہور فون: 7312173 ، فیروز سنز، شاہراہ قائد اعظم، لاہور

شفیق بک سنٹر چوک گڑھی شاہو لاہور فون: 6304761 ، ماورا بکس، شاہراہ قائد اعظم، لاہور

شبیر برادرز اردو بازار لاہور فون: 7246006 ، مکتبہ المجاہد بھیرہ شریف

پراگریسو بکس، غزنی سٹریٹ، اردو بازار لاہور

قادری کیسٹ ہاؤس، شیخ سرہندی سٹریٹ، داتا گڑھا بازار لاہور

علی ساؤنڈ سسٹم، گجرات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شاہ صاحب کا نیا قلمی شاہکار

توحید

جلد منظر عام پر آ رہا ہے

فلسفیانہ گفتگو، منطقیانہ انداز

مصنف کی دیگر تصانیف

- ۱۰ بسم اللہ اور ہماری زندگی
- ۱۱ توحید
- ۱۲ سپر مین آن داورلڈ
- ۱۳ بات سے بات
- ۱۴ آہ
- ۱۵ ماں
- ۱۶ باپ
- ۱۷ قتل ہی قتل
- ۱۸ محبت کیا ہے؟
- ۱۹ امریکی سکالر کے چار سوالوں کے جواب